

ہوامیں


ہمارے پیغمبر ﷺ

پاک زندگی کے پاکیزہ سبق
اور

اسلامی عقائد و احکام

واقعات سیرت مبارکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت مستند اور مختصر مجموعہ
اکابر علماء کا پسند کردہ۔ اسلامی اسکولوں، مدارس و مکانات کے نصابوں میں داخل
اشر

حضرت ولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ
شیخ الحدیث و صدر قمی مدمرہ امینیہ و سابق نظم عمومی جمعیۃ علماء ہند
ناشر: کتابستان قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶
جدید اڈیشن بعد نظر ثانی سال ۱۹۸۴ء قیمت: ۲/-



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَوْحَنِي وَسَلَامٌ عَلٰى عَبْرَةِ الَّذِينَ أَصْطَفَيْتَ

ہمارے پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

پیدا شش پیر کے دن صحیح کے سہانے وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ ربیع الاول کی نو تاریخ تھی۔ اور اسی سال لہ وہ واقعہ ہو چکا تھا کہ ملک جدش کے ایک ظالم گورنر نے کلمہ معظمه پر چڑھانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو جو ہاتھیوں

لہ منصرہ کے سند پیدا شش عام الفیل ہے۔ روایت ہے کہ پرندوں کی ایک ڈار نے فوج پر نکریاں برسائیں۔ نکریوں نے کارتوں کا کام کیا۔ جہاں پہنچیں اُپار ہو گئیں۔ سارے ہاتھی ختم ہو گئے۔ یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ اس کی تردید نہیں کی جاسکتی۔

فہرست مَصَابِ مِنْ

عنوان	صفیٰ	عنوان	صفیٰ	عنوان	صفیٰ
پیدا شش	۳	بُشْتیوں کا انتظام	۳۸	آفتاب اسلام مغرب میں	۷۵
والدین خاندان اور طن	۴۳	بُشْتیوں اور دوسرے	۷۶	خلاصہ (تاریخ دار واقعہ)	۷۹
شیرخواری	۵	کافروں سے بیجاً اور	۸۳	اسلامی عقائد اور حکام	۸۳
لڑکپن	۶	صلح کی صورتیں	۸۳	کلمہ طیبہ	۸۳
سن شعور	۶	لُذْتیوں کا آغاز	۸۱	معنی اور مطلب	۸۲
تجارت	۸	بدر کی رثائی	۸۱	الشَّرْكَ تعلق عقیدے	۸۵
نکاح	۱۰	اسلام کا رحم و کرم	۳۲	نبی یار رسول	۹۰
نبوت	۱۱	غُلطان کا واقعہ	۳۳	کلمہ طیبہ کی تفسیر کا	۹۳
تبیغ	۱۲	احمد کی رثائی	۳۵	خلاصہ	۹۳
ہجرت جدشہ	۱۴	خندق کی رثائی	۳۹	خلاصہ کی تائیں	۹۶
باتیکاٹ	۱۸	بیرون کا وقوف (صرف کشم)	۵۱	فرشتہ	۹۸
ثابت قدری کی آزادیش	۱۹	حدیث کا معایدہ	۵۳	تفہیر	۹۹
سچائی کا خضیہ کارنا نامہ	۲۱	فتح مکہ	۵۴	صحابہ کرام کے متلق	۹۹
رثی و غم کا سال	۲۳	ضروری عقیدے	۴۰	الشَّرْكَ کھڑتیں سوچھتہ	۹۹
معراج شرف	۲۴	صحابہ کرام کی	۷۱	موت کی رثائی	۱۰۱
ہجرت	۲۶	خصوصیات	۷۵	عیسائیوں سے جنگ کا آغاز	۱۰۱
بنی رجحت صلی اللہ علیہ وسلم	۳۶	صحابہ کرام پر اعراض	۷۳	نظم	۱۰۵
مدینہ میں	۳۶	صحابہ سے محبت	۷۵	توبہ کی رثائی	۱۰۵
تین فی مشکلین	۳۷	سیدنا حضرت معاویہ	۷۶	حج اسلام	۱۰۶
مدینہ منورہ کی پاریان	۳۷	رضی اللہ عنہ	۷۸	سفر آخرت کی تیاری	۱۰۶
		فُرَاجُ وَدَارِ عَبْنِ حَصْنَیِّ حَجَّ	۷۸	حج و دار عبْنِ حَصْنَیِّ حَجَّ	۱۰۸

تعریف ہوگی۔

شیرخوارگی کچھ دن ماں کی گود میں رہے۔ پھر عرب پلائیاں آئیں اور عورتوں نے امیروں کے بچے لے لئے۔ حضرت حلیمہ ایک نیک بی بی تھیں وہ رہ گئیں۔ مجبوراً انہوں نے اس میتم بچہ کو لے لیا مگر تقدیر مُنکاری کہ یہ میتم موتی ہے۔ برکتوں سے حلیمہ کا گھر بھر گیا۔ اس کے گاؤں پر رحمت کی بارش ہونے لگی۔

دو سال حضور نے دودھ پیا۔ آپ ہمیشہ دایاں دودھ پیتے۔ بایاں دودھ اپنی دودھ شریک بہن کے لئے چھوڑ دیتے۔ آپ پسند نہ کرتے کہ اس کے حصہ میں دخل دیں۔ گویا انصاف آپ کی فطرت تھی۔ اور برابری کا سلوک کرنا آپ کی طبعی خصلت تھی۔

چلنے پھرنے لگے تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ بھی بھریاں چڑانے جاتے۔ گویا کماگر کھانا آپ کی پیدائشی عادت تھی۔

یاد رکھو، انصاف اور پاک کمانی نیکی کی جڑیں ہیں

پر سوار تھی تباہ کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا تھا۔ یعنی (ہاتھیوں والا سال)۔

والدین اور خاندان ماں کا نام حضرت آمنہ، باپ کا نام جناب عبدالمطلب، برادری کا نام قریش تھا اور آپ کے کنہب خاندان کو بنوہاشم کہتے تھے۔ آپ میتم پیدا ہوئے کیونکہ آپ کی پیدائش سے دو ماہ پہلے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔

وطن مکہ شہر آپ کا وطن تھا۔ جہاں خانہ کعبہ ہے۔ جو جاتے ہیں۔ یہیں آپ پیدا ہوئے۔

نام نامی ماں کو پہلے ہی خیال ہو گیا تھا کہ ہونے والا بچہ بہت اچھا ہو گا۔ تعریفوں کے لائق ہو گا۔ اس لئے پیدا ہوتے ہی "احمد" نام پڑھانा۔ (جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریفوں کے لائق) دادا نے دیکھا تو "محمد" نام رکھا کہ اس بچہ کی دنیا جہاں میں تعریف ہی

لہ محمد کے معنی ہیں۔ جس کی تعریف کی گئی ہو۔

اور مسلمان کی پیدائشی خصلتیں۔

لڑکین | تقریباً چار سال بعد پھر یہ موقع آغوش آمنہ میں آیا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگا۔ دل کو سروہ پکھ دن نہ گزدے تھے کہ حضرت آمنہ اپنے رشتہ داروں میں مدینہ گئیں۔ قدرت نے کہا یہ موقع ہمارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

چنانچہ ایسا ہوا کہ واپس ہوتے وقت آمنہ کی وفات راستہ ہی میں ہو گئی۔ ظاہری طور پر دادا نے پروش شروع کر دی۔ اور ام ایمن نے خدمت کرنی شروع کی۔ مگر قدرت کو کب گوارا تھا کہ اُس کا قیمتی موقع کسی کی پروش کا احسان اٹھائے۔ حضور کی عمر آٹھ سال کی ہو گئی کہ دادا کی بھی وفات ہو گئی۔

دیکھو مصیبت کو خوست مت سمجھو، یتیوں سے محبت کرو۔ بے دارثوں کی پروش کرو، تمہیں کیا خبر وہ کس بلندی پہنچیں گے۔ قدرت نے ان میں کیسے کیسے جو ہر رکھے ہیں۔

سن شعور | چھاؤ گیارہ بارہ تھے مگر ان سب میں ابوطالب

کو زیادہ تعلق تھا۔ حضور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ آٹھ نوبرس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ مگر سب خیری گویا گھٹی میں پڑی تھی۔ نہ دنگا نہ شرارت۔ نہ رونا نہ جھینکنا۔ نہ ضد تھی نہ ہٹ۔ بچے دنگا شرارت کرتے۔ شور چلاتے مگر آپ ہمیشہ خاموش رہتے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے ضد کرتے مگر آپ چُپ چاپ ادب سے چجا کے ساتھ کھانا کھایتے۔ ہر وقت صاف سخترے رہتے۔ بدن پاک کپڑے صاف۔ بچے دنیا کے ہوتے ہیں۔ مگر اس بچہ کی شان ہی نراثی تھی۔ آٹھ نو سال کے جی کو یہ فکر بھی ہو گئی کہ اپنا بوجھ چھاپر نہ ڈالیں۔ چنانچہ مزدوری پر بکریاں چسراں شروع کر دیں۔ بارہ سال کی عمر ہوئی تو چھا کے سر ہو گئے کہ آپ کے ساتھ تجارت کے لئے ہم بھی شام جائیں گے۔ خدا نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کر شے دکھائے۔ شام سے واپس ہونے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے۔

دیکھو پھو! تم بھی شرارت مت کرو۔ بزرگوں کا ادب کرو، ہمیشہ تہذیب سے رہو۔ ٹھیڑ، سینا

تک پہنچی۔ جان پہچان کے آدمیوں کو پیچ میں ڈال کر معاملہ کی بات چیز کی اور تجارت کا کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔

عرب کے سوداگروں کا دستور تھا۔ وہ شام جا کر اپنا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ نے بھی سفر کا انتظام کر لیا اور شام کو روانہ ہو گئے۔

خدیجہ تھیں تو عورت، مگر تھیں بڑی ہوشیار۔ میرہ نامی ایک غلام کو ساختھ کر دیا۔ بہانہ تو خدمت کا تھا۔ مگر مطلب یہ تھا کہ نیکرانی ہوتی رہے۔

لیکن جس کا نام محمد تھا (صلی اللہ علیہ وسلم) سچائی اور دیانت داری کا پستلا تھا۔ برکتیں اس کے پاؤں چومتی تھیں۔ اس تھوڑے سے مال میں تنگا چوگنا ففع ہوا۔ سچائی محبت اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میرہ عاشق ہو گئے۔

دیکھو! تجارت مسلمانوں کا اصل پیشہ ہے۔ دیانت اور امانت اس کا اصلی سرمایہ ہے۔ تم سچے اور لذت لاد رہو۔ اخلاق سے پیش آؤ، دنیا تم پر عاشق ہو گی۔ سچا امانت لار تاجر جنتی ہو گا۔

ناج گانا، باجا، سائیک و فنیہ وغیرہ لفڑا در بے ہودہ کام ہیں، خدا کو بھلا دیتے ہیں۔ دل کو کالا کرتے ہیں، ان سے دین دنیا دلوں کی بربادی ہے۔ تم ان پر لعنت بھیجو، دل سے نفرت کرو۔ بے ہودہ اور لفڑا کاموں میں پڑنا مسلمان کا کام نہیں۔

تجارت تجارت شریفانہ پیشہ ہے۔ لیکن روپیہ حضور تھیں جن کا نام تھا خدیجہ۔ خدا نے دولت بہت پکھڑ دی تھی۔ ان کے یہاں ہمیشہ سے تجارت ہوتی چلی آئی تھی۔ مگر اب کوئی نہ تھا جو کام سنبھالتا۔

حضور کی عمر اس وقت تھیں چوبیس برس تھی۔ سچائی، امانت داری، سمجھ بو جھ اور معاملہ فہمی خدا داد تھی۔ روز روز کے تجربہ نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔ اپنے پرانے سب ہی گرویدہ ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر صادق (سچا) اور امین (امانت دار) کا لقب تھا۔ اسی لقب سے آپ پکارے جاتے تھے۔ اس بیوہ کا مقدر سامنے تھا۔ خوش نصیبی کا تارا چمکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کے کافوں

نکاح حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام کی زبانی سفر کے حالات سننے تو یقین کر لیا کہ ان وصفوں کا مالک یہ ہونہار جوان بہت بڑے رتبے کا آدمی ہو گا۔ پچھے نکاح کا اشارہ ہوا۔ اگرچہ خدیجہ چالیس سالہ عورت تھیں اور حضور نوجوان تھے۔ صرف پچھیں سال کی عمر تھی۔ خاندان ایسا کہ سارا عرب اس کی عزت کرتا تھا۔ عادت مزاج ایسا کہ بوڑھے جوان سب ادب و لحاظ کرتے۔ نام نہ لیتے۔ امین یا صادق کہتے، تجارت سب سے بڑی چیز تھی اس کے آپ ماہر تھے۔

غرض آپ جس عورت کے لئے اشارہ کرتے اس کے ماں باپ فخر کرتے اور سوچان سے منظور کرتے۔ مگر اللہ والے دُلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نکاح کرنا تھا۔ نفس بڑھانا نہیں تھا۔ آپ نے خدیجہ کی درخواست منظور کر لی۔

نکاح ہو گیا۔ اولاد ہوئی۔ عادتیں پچھے ایسی پیاری تھیں کہ جوں جوں دن گذرتے جاتے خدیجہ دُلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سوچان سے قریان ہوتی جاتی تھیں۔ مگر آپ اپنا من خدا

کے دھیان میں لگاتے جاتے۔ یمن کی لگی ایسی بڑھی کر آپ اکثر حرارہ پھاڑ کے ایک غار میں رہنے لگا۔ وہیں خدا کی یاد کرتے رہتے ضرورت کے بموجب گھر آتے۔ بال بچوں کی خبر لیتے۔

مسلمانوں کے دونوں کام میں۔ اللہ کی یاد کرنا، بال بچوں کی خبر رکھنا۔ کسی ایک کا ہو کر دسرے کو چھوڑ دینا مسلمان کی شان نہیں۔

نبیوت اب نکاح کو لگ بھگ پندرہ برس ہو گئے حضور کی عمر کے چالیس برس پورے ہوئے تھے پیر کا دن تھا۔ خدا کی یاد میں اسی غار میں آپ تشریف رکھتے تھے کہ خدا کا فرشتہ جس کا نام جبرئیل ہے (علیہ السلام) آیا۔ خدا کا پیام پہنچایا۔ اور آج سے آپ نبی ہو گئے۔ مگر عمر بھر میں یہ ایک نیا واقعہ تھا۔ خدا کا پیام معمولی چیز نہیں۔ پیغمبر کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اس کو بڑی بڑی مصیبیں جھیل کر اللہ کی اطاعت اور خلقی خدا کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا مرتبہ بلند ہوتا ہے عزت بڑی ہوتی ہے ایسے ہی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ آپ کو ان باتوں کا پورا

احساس تھا۔ گھر آئے طبیعت پر بڑا اثر تھا۔ دل کا نپ رہا تھا۔ آپ نے ڈھانپ لینے کا حکم کیا اور پورا واقعہ سنایا۔ خدیجہ واری ہوتیں۔ کہا آپ سچے نبی ہیں۔ میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں۔ آپ گھر میں نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی خصلتیں بخشی ہیں کہ آپ نبوت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں۔

صدقی اکبر حضرت ابو بکر، حضرت ام امین، حضرت زید بن حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہم یعنی گھر کے آدمی اور خاص دوست جو رات دن حضور کو دیکھتے تھے۔ وہ تو پہلے ہی فریفۃ تھے۔ خبر پاتے ہی سب ایمان لے آئے۔

تبليغ | اب حرام پہاڑی کا غار چھوٹا۔ گلی، کوچوں، بازاروں، میلوں میں وعظ شروع ہوا۔ لوگوں میں ہٹ دھرمی اور اپنے بادا کی رسم کی اتنی پچ تھی کہ اللہ کو ایک جاتنا اور اپنے من مانے دیوتاؤں کو چھوڑنا گویا ان کے لئے موت تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے بُت بنار کھے تھے اور یہ لوگ ان کے پچاری تھے۔ خدا کے ایک ماننے اور مورقی پوجا چھوڑنے سے ان کی مہنتا یت غتم

ہوتی تھی۔

انہوں نے اپنی جھوٹی بڑائی کی خاطر اس سچی تعلیم کی مخالفت شروع کر دی اور حضور کے دشمن بن گئے۔ ایک دفعہ حضور نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچے ایک فوج ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم پچ ہانوگے یا جھوٹ۔ سب بولے پچ۔ کیونکہ آپ سچے ہیں امانت دار ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچے ہے۔ میں تم کو خدا کے غضب سے ڈراتا ہوں۔ میں پچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ میں اُس کا نبی ہوں۔ تم بھی اقرار کرو۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ایک اللہ کی پوجا کرو۔ اس کے حکم مانو۔ بُری باتوں سے نفرت کرو۔ نجات پالو گے۔ کیسی اچھی یا تیسی تھیں جو آپ نے بتائیں مگر ان لوگوں کے دل کفر کی دل دل میں پھنسے ہوتے تھے غور اور تکبر سے دماغ خراب ہو گئے تھے کوئی بات ان کی سمجھے میں نہ آئی۔

حد ہو گئی توبہ توبہ۔ چچا ابوالہب پکارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

خدا کے پیارے ان ہی مصیبتوں میں خدا کو پیارے ہو گئے۔
مگر جو اسلام آتا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں سچائی کی
کتنی طاقت بھر جاتی تھی کہ کبھی اُس کا قدم نہ ڈال سکتا۔
بات یہ تھی کہ وہ اس بات کو کھلم کھلا جان لیتا تھا کہ
دنیا کی تمام مصیبتوں دوزخ کی آگ کے سامنے ہیچ ہیں،
اس کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جاتی کہ
تکلیفوں کو راحت سمجھتا اور مصیبتوں کے کانٹوں کو پھولوں
کی پنکھڑیاں جانتا تھا۔

دیکھو! اسلام کیسا سچا اور پیارا نہ ہب ہے کہ ان
مصطفیتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اُس کے چاہنے والے
بڑھتے ہی رہے۔

مسلمانوں تم دنیا کے لئے نہیں پیدا کئے گئے تمہاری
پیدائش کا مقصد عیش و عشرت نہیں۔ راحت و آرام کے لئے
مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ مسلمان صرف اس لئے پیدا ہوا ہے
کہ وہ اپنے مالک کا بندہ بن کر رہے اُسی کے احکام پر عمل
کرے۔ اُسی کی بادشاہت کے گیت گائے۔ دنیا کی تمام

تیرنا س ہو۔ تو نے اسی واسطے ہیں بُلایا تھا؛ لیکن خدا کا
قہر پکارا ابوہب تیرا ہی ناس ہو گا۔ آخر یہ سب اُٹھ کر
چلے گئے۔

مسلمانوں احتی بات کہو۔ اگرچہ درست دشمن بن جائے
خدا گلتی کہو۔ اگرچہ اپنے پرانے ہو جائیں۔ دنیا کی
مصطفیت چند روزہ ہے۔ آخرت کی تکلیف بہت
سخت اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس سے ڈرد جو
بہت سخت ہے۔

ادھر سے تبلیغ اور اُدھر سے نفرت دونوں میں دین بدلن
زیارتی تھی۔ نفرت اس حد کو پہنچی کہ ملہ شہر کا بچہ بچہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کا دشمن ہو گیا۔ طرح طرح سے حضور کو
ستاتے۔ حضور کے ساتھیوں پر ہزاروں مصیبتوں کے سہار
توڑتے۔ مسلمان اولاد کے حق میں خود ماں باپ جانی دشمن
بن گئے۔ رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے۔

انہا یہ تھی کہ مسلمان چھپ چھپ کر زندگی بسر
کرتے۔ ملہ کی سر زمین پر ایک رو دن نہیں دو چار مہینے
نہیں برسوں مسلمانوں نے مصیبتوں جھیلیں۔ بہت سے

نماشیوں سے نفرت کرے وہ خداوندی فوج کا سپاہی ہے۔ عیش و عشرت سپاہی پر حرام: راو خدا میں جان کھپانا اس کا خاص کام۔

ہجت جلسہ

چھ سات برس بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ابازت ری کہ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کر جان بچا سکیں تو چلے جائیں۔ کچھ مسلمان جن کے لئے مکہ کا ذرہ ذرہ و شمن بن چکا تھا۔ جن کورات دن جان کا خطہ رہتا تھا۔ اس حکم کے بعد چار ناچار بخشہ چلے گئے۔ ان میں خاص حضرات یہ تھے۔

(۱) حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (۲) ان کے شوہر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (۳) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھانی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ (جو ہمارے پیغمبر کے چپازاد بھانی تھے) (۴) حضرت

عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ (ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھانی)

ان حضرات کے علاوہ تقریباً ایک سو یہ بزرگ اور تھے جو دو دفعہ کر کے جبše تشریف لے گئے۔ پہلی دفعہ گیارہ مرد چار عورتیں۔ دوسری دفعہ تراسی مرد اٹھارہ عورتیں۔

چپک سے قتل کردینے کی رائے

مکہ کے کافر مسلمانوں کو ستانے سے تھکے تو نہ تھے۔ لیکن ان کو حیرت تھی کہ ہماری کوششیں ناکام ہیں۔ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ناکہ بندی، وعظوں میں شور ہر ایک راستے پر دیکھ بھال دروازہ تک کی نگرانی کر کوئی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا یہ سب کر لیا گیا اور کر رہے ہیں۔ مگر مسلمان دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ آخر کار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہوئے۔ غور کیا، رائے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے شہید کر دو۔ تب ہی اس قصہ کا خاتمه ہو گا۔

بائیکاٹ

خواجہ ابوطالب نے اُن کے تیور بھانپ لئے۔ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو جن کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا ساتھ لے کر مکہ سے نکل گئے اور ایک گھانٹی میں جس کو "شعب ابی طالب" کہا کرتے تھے جا کر پناہ لی۔

کافروں نے اس کا توثیر کیا کہ ان سب کا بائیکاٹ کر دیا اور آپس میں مل کر طے کر لیا کہ ان سے بات چیت، ریل میل، خرید فروخت سب بند کر دو۔ باہر سے بھی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہ دو۔ رشتہ ناتے بھی ختم کر دو۔ ان نے کاخ بیاہ بھی نہ کرو۔ پھر ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ سارے خاندانوں کے سرداروں نے اس پر دستخط کئے۔ اور وہ خانہ کعبہ کے خزانہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ عملدرآمد شروع ہوا۔ کچھ آدمی مقرر کر دیئے گئے کہ وہ نجگانی رکھیں کہ کوئی خلاف تو نہیں کر رہا ہے۔

اب صورت یہ ہے کہ شہر میں ہر ایک چیز بکتی ہے۔ مگر سینے والے کافر ہیں۔ عہد کے پابند۔ دو چار دن کی بات ہوتی تو بچی بچی یا بچپنی چھپائی چیزوں سے بھی کام نکال لیتے۔ مگر

اس عہد کی تو کوئی مدت ہی نہ تھی۔ گویا ساری عمر کے لئے تھا بھوک، پیاس، سردی، گرمی وغیرہ کی مصیبتوں نے مسلمانوں کو کسی کس طرح ستایا ہو گا؟ اندازہ سے باہر ہے، ہاں ایک چیز تھی جس پر کافروں کا بس نہ چل سکتا تھا۔ یعنی درختوں اور گھاس کی پتیاں اور جڑیں۔ بس یہی ان بے کس مسلمانوں کی غذا تھی۔

خدا کی پناہ! بے بسی کا ایک عالم ہے بڑوں کے منہ پر فاقہ سے ہوانیاں اُڑ رہی ہیں۔ بچے بھوک سے بلبلار ہے ہیں۔ ماڈیں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پتھر دیکھتے تو پھٹ پڑتے مگر افسوس کافروں کے دل نہ پسیجے۔

امتحان پر امتحان

ثابت قدر ہی کی آئندہ امتحان

ابوطالب مسلمان تونہ ہوئے تھے۔ مگر ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی

حضور کے ساتھ تھے۔ ایک دن کافروں نے ان سے کہا۔
 ”پچ تو یہ ہے آپ لوگوں کی تکلیف سے ہمارے دل
 بہت کرڑھتے ہیں۔ مگر مجبور ہیں، آپ کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 ہمارے بُتوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے کہ اگر وو پے
 کی خواہش ہے تو ہم اپنی ساری دولت ان کے سپرد
 کرتے ہیں، اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم گردون جھکلاتے ہیں
 وہ خوشی سے حکومت کریں۔ اگر عورتوں کی چاہ ہے تو ہم عرب
 کی خوبصورت عورتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں صرف
 اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بُتوں کو نہ جھٹلانیں۔ ابوطالب یہ
 سننگر خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے سپیر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے نفس پرستوں کی باتیں سنیں تو ٹھنڈی آہ بھری اور
 فرمایا۔

”چھا جان آپ نے میری خاطر بہت مصیبتوں جھلیں
 بہت پریشان رہے آپ کا شکریہ! اب اگر آپ تھاک
 تھے ہیں تو محمد کو چھوڑ دیں اطمینان کی زندگی بس رکریں مگر
 محمد اس کو نہیں چھوڑ سکتا جو اُس کے ذمہ کر دیا گیا ہے محمد جو
 کہتا ہے وہ محمد کی آواز نہیں خدا کا پیغام ہے۔ حکومت یا

دولت تو کیا اگر ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند بھی رکھ دیں
 تو محمد اس مقام سے نہیں ہٹ سکتا جہاں اس کے خدا نے
 اس کو کھڑا کر دیا ہے۔

یاد رکھو! سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ خیر خواہی
 کو لوگ خود غرضی سمجھیں۔ اور دیکھو عنقرضا بادشاہت
 حکومت، دولت چذر دزوہ ہے۔ البتہ سچائی کی دولت
 ہیشیر ہنے والی ہے، اچھے اخلاق کی حکومت کبھی قا
 نہیں ہوتی۔

یاد رکھو! بادشاہ کی موت خناہی فنا ہے نبی کی موت
 بشارت بقا ہے۔ وہ مر کر ختم ہو جاتا ہے، یہ ہیشیر ہیشیر
 زندہ رہتا ہے۔

سچائی کا خفیہ کارنامہ

تین سال ختم ہونے لگے۔ مگر بائیکاٹ ختم نہ ہوا، دشمن
 بھی اپنے عہد سے اکتا گئے۔ لیکن انہیں اپنی ہار مانی مشکل
 تھی۔

ایک دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ابوطالب سے کہا۔ "کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے عہد نامہ کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے۔ صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔" یہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں نہایت احتیاط سے رکھا تھا۔ کوئی اس کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ نے اس کے منٹ جانے کی خبر دیدی۔ ابوطالب کافروں کے پاس پہنچے۔ ان سے کہا۔ "آج ایک بات پر معاملہ طے ہے۔ اگر سچ ہے تو تم یائیکاٹ چھوڑ دینا۔ ورنہ میں محمد کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔" جب ابوطالب نے خبر دی کہ صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ عہد نامہ کے حروف کیڑے چاٹ گئے تو کافروں کو بے حد تعجب ہوا۔ فوراً پہنچے عہد نامہ کھولا گیا، کھول کر دیکھا تو اللہ کے نام کے سوا سارا عہد نامہ صاف تھا اور صفائی سے بتا رہا تھا کہ "عقل کے انڈھوں آنکھیں کھولو، سچائی کو پہچانو۔ باطل اسی طرح منٹ جائے گا۔ اللہ باقی ہے، وہ باقی رہے گا۔ اس کا نام لیوا باقی رہے گا۔ تم باطل پر عہد کرتے ہو مگر خدا کا عہد حق پر ہے۔" دیکھو! مصیبت ختم ہونے کے لئے ہے، تم اس کی

شکایت بے بس انسان سے مت کرو۔ تم خدا کے ہو رہے ہو۔ خدا کی پوشیدہ تدبیر تمہاری ہو رہے ہی گی۔

رَجُوْنَمْ كَا سَال

رہائی سے کچھ دنوں بعد حضور کو دو صدے پہنچے پہلے چاہا ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ پھر تین دن بعد حضور کی وفادار خدا کی دوست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مدد پہنچتی رہتی تھیں لہ

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھیں اسلام پر قربان ہونے والیں۔ جو سب سے پہلے اسلام لائیں۔ ساری دولت اسلام اور مسلمانوں پر قربان کر کے فاتحہ کشی کو

لہ حضرت خدیجہؓ کی تاریخ وفات ماریا مہر مہر رمضان المبارک ستہ بعثت یعنی بھرت سے تین سال پیشتر۔ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچاس سال تھی۔ (فتح الباری)

دولت سمجھا۔ خدا کی راہ میں ہر مصیبت کو ابدی راحت جاتا۔ ابوطالب وہ عاشق جنہوں نے حضور کی حمایت میں ساری مصیبتوں بھیلیں۔ مکہ والے ان کا اب بھی ادب کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ کا رہنا ابھی ناممکن نہ ہوا تھا۔ اب وہ وقت آگیا کہ مسلمانوں کے یہ ظاہری سہارے سب ختم ہو گئے اب مکہ کے کافر کھلے بندوں من مانی تکلیفیں دینے لگے۔

حضرت خدجہ کی وفات سے گھر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کنواری بچیوں کی پریشانی حضور کو اور بھی پریشان کھٹکی اُدھر بے دھڑک وعظ و تبلیغ اور اس پر کافروں کی گستاخیاں اور سختیاں۔ انہی مصیبتوں میں دوسال اور گذر گئے۔ عمر شریف باون سال سے زیادہ ہو گئی۔

معراج شرافت

خدا اپنے پیارے بندوں کا امتحان لیتا ہے اُن کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔

سب سے بڑے نبی کا امتحان سب سے بڑا۔ مگر خدا کی رحمت مصیبت کے ساتھ چیکے چیکے دلداری بھی کرتی رہتی ہے۔ دیکھو یہ ہی مصیبتوں کے پہاڑ ہیں۔ جو ہر طرف سے آخری نبی کو کھیرے ہوتے ہیں مگر مصیبت کی ان ہی کالی کالی گھاؤں میں رحمت کا آفتاب چلتا ہے۔

ایک رات فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی پر وارکر کے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ روزخ جنت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر تمام نبیوں کے امام بنتے ہیں۔ مقرب فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ عرش پر جاتے ہیں۔ قدرت خدا کے جو درفتر وہاں پھیلے ہوتے ہیں اُن کا معائنہ کرتے ہیں پھر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آج تک دنیا میں کسی نبی یا رسول کو نصیب نہ ہوئی تھی اسی سفر میں نماز فرض ہوتی ہے۔ جو مسلمانوں کی معراج ہے۔ جس کا پڑھنے والا خدا سے بانیں کرتا ہے۔

دیکھو! بہادر ہو تو صبر کرو۔
مصیبت امتحان ہے اور صبر کا میابی کی تجھی۔

مصیبت کے وقت ثابت قدم رہو اور صرف خدا
سے مدد مانگو۔

شازِ مون کی معراج ہے۔ شاذ پڑھنے والا ربے
مناجات کرتا ہے۔

حُجَّرَةٌ وَطَنٌ سَنَسِيْجَدَانِيْ

(۱)

اسلام نور ہے۔ اس کے مساوا اندھیرے۔ اندھیری
ڈراؤنی ہوتی ہے۔ اس کے دامن میں ہزاروں بلاں میں ہوتی ہیں۔
وہ چاہتی ہے کہ نور کو دبایے۔ مگر نور کی جھلک اس کو فنا
کر دالتی ہے۔

کافروں کی کوششوں نے اور کفر کی اندھیریوں نے
بہت چاہا کہ اسلام کے نور کو مٹادیں مگر جس دل میں

اس نور نے گھر کر لیا تھا وہ نور ہی نور ہو گیا خود چکا اور
دوسروں کو چمکایا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری مصیبتوں اسلام کے پھیلاؤ کو
نہ روک سکیں۔ وہ مکہ کے کناروں سے نکل کر دوسری
بستیوں کو روشن کرنے لگا۔ مدینہ ۲۵۰ میل تھا اس کے
گھروں میں روشنی پہنچی اور لوگ اس روشنی میں مسلمان
ہونے لگے۔

مدینہ کے مسلمانوں کا شوق بڑھا اور وہ آرزو
کرنے لگے کہ اس نور کے سورج اور چاند تارے یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب مدینہ
ہی میں آجائیں۔

اوھر کمکی تکلیفیں دہاں کے لوگوں کی اندر چال
بتابہ ہی تھی کہ اسلام کی ترقی اسی میں ہے کہ اس نگری کو
چھوڑ دیں۔

چھوٹوں، باغ سے نکل کر ہی سرچڑھتا ہے۔ بالآخر
ٹٹے ہو گیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلتے، دہاں جا کر بیٹے۔ وہیں سے
دین کی ترقی ہو گی۔

ویکھو! اسلام کو کس طرح برداگیا۔ مگر وہ بے کسی میں کیسا بڑھا۔

ویکھو! اسلام کی ترقی کی خاطر جو کچھ رکھتے ہو قریان کردو۔ تم پھیلنے کی کوشش کرو۔ اسلام کا جھنڈا بلند کرو اور ساری دنیا پر چا جاؤ۔

تم یہ بھی ویکھو، اسلام تواریخ سے پھیلایا۔ اخلاق سے یاد رکھو، اسلام کی طاقت سچائی ہے، اصل اقتدار اخلاق کا اقتدار ہے۔ تم اپھے اخلاق اختیار کرو۔ اچھی عاذیں اپناو۔ دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ مسلمانوں کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اچھی باتوں اور اعلیٰ اخلاقیں میں سب سے بڑھتے ہوتے ہوں۔

(۳)

نبوت کا تیرھواں سال ہے عمر مبارک باون سال پورے کرچکی۔ جو طے ہوا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نکہ سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہو رہے ہیں۔ نکہ کے کافر اس بھرت کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ وہ جاتے والوں کو روکتے ہیں مگر جو خدا کے لئے نکل کھڑا ہوا وہ کسی کے روکنے

سے کب رک سکتا ہے۔ اکثر صحابہ نکل کر مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ آج کل میں حضور بھی ارادہ کر رہے ہیں، کافر پریشان ہیں کہ کیا کریں وہ یقین کئے ہوئے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی روک تھام اور قید و بند کے باوجود اسلام کی ترقی رک نہ سکی تو مدینہ کی آزادی میں یقیناً اس کی ترقی بے پناہ ہو گئی اسلام ہری کا غلبہ ہو گا اور ہماری عزت اور سیاست خاک میں مل جاتے گی۔

ان حالات پر غور کرنے کے لئے کافروں کے سردار اکٹھے ہوتے ہیں۔ آخر کار طے ہوتا ہے کہ ہر ایک خاندان کا ایک ایک نوجوان رات کو ہتھیار باندھ کر آتے اور یہ سب مل کر رات کی اندریہ میں اسلام کی جڑ ہی کو کاٹ ڈالیں۔ سچی آواز کے حلق پر چھری پھیر دیں۔ یعنی نصیب دشمناں نبی رحمت کو شہید کر ڈالیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) لیکن یہ سچی آواز خدا کی آواز تھی۔ اسلام کا درخت خدا کا لگایا ہوا تھا۔ نبی امی کا حامی خود اللہ تھا۔ اس نے اپنے سچے رسول کو کافروں کے مشورہ کی خبر کر دی اور حکم دے دیا کہ آج کی رات نکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو جائیں۔

سے نکلا۔ صحن میں پہنچا دروازہ پر آیا۔ باہر قدم رکھا اور سورہ "لیں" کی تلاوت کرتا ہوا کافروں کی آنکھ میں وصول جھوٹکتا ہوا سامنے نے صاف نکل گیا۔ کافروں کی آنکھیں بند ٹھیکیں اور خدا کی قدرت ان پر ٹھہڑ لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنا ارادہ پورا کرنے کے لئے کافر اندر گئے لیکن وہ چیراں اور شرمende تھے کہ ان کی ساری کوشش خاک میں مل گئی جن کو شہید کرنا تھا وہ موجود نہیں جو موجود ہیں ان کو شہید کرنا طے نہیں۔

فوراً بڑے سرداروں کو اطلاع دی گئی۔ دوڑ دھوپ شروع ہوئی سارا مکہ پھان مارا کہیں پتہ نہ چلا تو عام اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکڑ لائے یا ان کا سر لائے اس کو سو اونٹ انعام میں لے لیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت خانہ سے نکلے سیدھے صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے پھر مکان کے درمیانے سے دونوں بزرگ روانہ ہو کر "ثور" پہاڑ پر پہنچے۔ تین دن اس کے ایک غار میں چھپے رہے۔ چوتھے روز صدیق اکبر کی

(۳)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو خبر کر دی وہ پہلے سے دو اونٹیاں اور سفر کا سامان تیار کئے ہوئے تھے اور ارشاد کے منتظر تھے۔ رات کا وقت ہوا، انڈھیری رات تھی کافر اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لئے آئے۔ بارگاہ نبوت کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا۔

دیکھو کیسا نازک وقت ہے دشمن قتل کے لئے تیار، مددگار کوئی نہیں۔ ہاں اللہ سب سے بڑا مددگار ہے رات ڈھلنے لگی۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا۔ "تم بستر پر لیٹ جاؤ ممکن ہے کافر جھانکیں تو انہیں اطمینان رہے کہ نبی موجود ہیں، اور تم لوگوں کی امانتیں واپس دے کر مدینہ چلے آؤ"۔

غور کرو، فدا کاری یہ ہے کہ حضرت علی فوراً لیٹ گئے انہیں ٹھبراہٹ نہ ہوئی کہ یہ بستر آج موت کا بستر ہے۔ جس کے چاروں طرف دشمن تلواریں لئے بیٹھے ہیں۔

اللہ کا سچا رسول، اللہ کی حمایت کے سایہ میں مجرہ

دونوں اونٹیاں پہنچیں اور یہ دونوں صاحب ایک غلام کو اور ایک راستے بنانے والے کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ کافروں نے بہت دوڑھوپ کی۔ سب طرف تلاش کیا۔ اس غار کے منہ تک بھی پہنچے۔ سمجھے دوڑ نے والوں نے بھی ایک جگہ پالیا۔ مگر خدا کی قدرت جس کی محافظت ہو اس کا بال بیکا کون کرسکتا ہے۔ نئے نئے معجزے ظاہر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی حفاظت میں خیریت سے مدینہ طیبہ کے قریب قبا مقام پر پہنچ گئے۔ جہاں مکہ سے آئے والے دوسرے مسلمان تھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دونوں حضور نے وہاں قیام کیا۔ مسجد کی بنیاد ڈالی۔ پھر مدینہ کے مسلمان جنہوں نے اپنے شہید کی تحریک کی اور بڑی عزت اور شان سے آپ کو یمن لے گئے۔

دیکھو سچائی یہ ہے کہ خون کے پیاسے کافروں کی امانتیں اب بھی حضور کے پاس ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہدایت بھی فوارہ ہے ہیں کہ یہ امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینہ کے لئے روانہ ہوں۔ یہ امانتیں انہیں کافروں کی تھیں جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کا

منصوبہ بنایا تھا اور قتل کرنے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ یقیناً مجرم تھے مگر اس جرم میں ان کی امانتیں ضبط نہیں کی گئیں بلکہ ان کو ادا کرنے کا انتظام فرمایا گیا جرم کا پدل جرم سے نہیں دیا جا رہا بلکہ سیرچشی امانت داری اور اونچے اخلاق سے دیا جا رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت یہ ہے کہ صدقی اکبر رضی اللہ عنہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر حضور کے ساتھ ہوتے۔ گھر میں جو کچھ روپیہ تھا وہ بھی ساتھیا بچوں کو خدا کے نام پر چھوڑا۔ لیکن تعریف یہ ہے کہ بچے بھی اس پر سوجان سے راضی تھے۔

اور دیکھو فرمائیں بیواری اور حکم اتنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم پاتے ہی اس بستر پر سو گئے جس کے متعلق طے تھا کہ صحیح سے پہلے خونِ شہادت سے رنگا جاتے گا۔

بس دیکھو، تم بھی وہی سچائی پیدا کرو کہ دوست تو دوست دشمن بھی تم پر بھروسے کریں۔ وہ محبت پیدا کرو کہ اللہ اور رسول کے سامنے سب کچھ ہجیج ہو۔

وہ فدائیت پیدا کرو کر راہ خدا میں قربان ہو جانا
سب سے بڑی تمنا ہو۔

سوالات اور جوابات

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم معمظہ سے کون سے دن روانہ
ہوتے تاریخ کیا تھی؟

جواب: جمعrat کے دن ۲۲ صفر کو نبوت سے تیرھویں
برس۔

سوال: غار سے کس دن روانہ ہوتے اور تاریخ کیا تھی؟
جواب: پیر کے دن یعنی ربیع الاول کو۔

سوال: مدینہ پہنچنے سے پہلے قبیا میں کتنے روز قیام فرمایا
اور وہاں کیا کیا؟

جواب: چھوٹہ دن قیام فرمایا۔ ایک مسجد بنائی جس میں
حضور مجھی تمام مسلمانوں کے ساتھ کام کر رہے تھے
اسلام میں سب سے پہلی مسجد تھی۔

سوال: قبیا کس تاریخ کو پہنچے تھے اور دن کیا تھا؟

جواب: ۸ ربیع الاول۔ روز دوشنبہ (پیر)
سوال: مدینہ میں کون سے دن داخلہ ہوا تاریخ کیا تھی؟
جواب: جمع کے دن ۲۲ ربیع الاول سنہ ہجری۔
(لتلبیہ) اس کے بعد ہجری سن لکھا جائے گا
جس کا آغاز آج سے ہوا۔ اگرچہ رواج حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔

سوال: اصل وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاہنے کا درہ
نام کیا ہے؟

جواب: ہجرت

سوال: مہاجر کس کو کہتے ہیں؟

جواب: جو خدا کے لئے اپنا وطن چھوڑ کر چلا جائے۔

.....

ہجرت کے بعد

نَبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةُ الْمَقْدِيرِ
 مدینہ کے درودیوار پر رونق ہے گھر گھر خوشی منانی
 جارہی ہے بچہ بچہ کی زبان پر ہے۔ مدینہ والو! مبارک!
 اسلام کا چاند آیا۔ خدا کا شکر، نبوت کا چاند آیا۔
 ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اس دولت کو اپنے گھر
 لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی پھوڑ دی کہ
 جہاں جا کر وہ بیٹھ جائے گی میں وہیں شہر مول گا۔
 خدا کی قدرت وہ اونٹی حضرت ابوالیوب انصاری
 رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس جا کر تھیری جن کا حق بھی
 سب سے زیادہ تھا۔ کیونکہ وہ حضور کے رشتہ دار بھی تھے۔
 جہاں اونٹی شہری تھی وہیں پھر مسجد بنائی گئی۔
 جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔

عَلَى صَاحِبِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

نی تہی مشکلین مَدِينَةُ الْمَقْدِيرِ کی پارٹیاں

مدینہ میں دو فرقے رہتے تھے۔ بت پرست اور
 یہودی۔ بت پرست زیادہ تر مسلمان ہو گئے۔ جن کو انصار کہتے
 ہیں۔ یہودی زیادہ تر اپنے مذہب پر باقی رہے۔ ایک تیسرا
 جماعت اور پیدا ہو گئی جو ظاہر میں مسلمان تھی لیکن دل میں
 کافر ان کا نام منافق ہوا۔ مدینہ پہنچ کر یہ فائدہ ضرور ہوا کہ
 مسلمان کھلے بندوں ایک جگہ مل کر بیٹھنے لگے اپنی عبادتیں
 سب مل کر آزادی سے ادا کرنے لگے۔ لیکن مشکلوں میں کوئی
 کی نہیں آئی بلکہ پہلے صرف مک کے کافروں نے تھے تواب مدینہ
 کے رہنے والے یہودی اور بڑھ گئے اب تک مکہ والوں
 سے مقابلہ تھا۔ لیکن اب عرب کی دوسری پارٹیاں بھی
 دشمن بن گئیں۔

اور پھر جوں جوں اسلام برپتار ہادشمنوں کی تعداد
 بھی بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ سارا

عرب اسلام کے مقابلہ پر آگیا۔

بستیوں کا انتظام

یہودیوں اور دوسرے کافروں سے بھاؤ
اور صلح کی صورتیں

مهاجر پرنسپی تھے۔ انصار مدینہ کے بہنے والے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں بھائی چارہ کراویا
کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے اور ہدایت کردی
کہ یہ اسلامی بھائی حقیقی بھائیوں کی طرح رہیں۔ ہر ایک
دوسرے کی ہر طرح سے مدد کرتا رہے۔

انصار اور مہاجرین نے اس کو اس طرح مانا کہ خون
کے رشتہ سے زیادہ اس ایمانی رشتہ کا حق ادا کیا۔ ہر موقع
پر اپنی ضرورت پیچے ڈالی بھائی کی ضرورت پہلے پوری
کی۔ یہودیوں اور مشرکوں سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
لے صلح ہی پسند کی چنانچہ یہودیوں سے ایک معاهدہ ہو گیا
جس کا مضمون یہ تھا۔

- ۱۔ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا۔
 - ۲۔ کوئی دوسرا گروہ اگر جملہ کرے تو ایک قوم کی طرح دونوں
فرقے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔
 - ۳۔ تمام اندر ورنی جھگڑوں کا آخری فیصلہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔
- اسی طرح آس پاس کی بستیوں اور قبیلوں سے بھی
صلح کے معاملے کر کے یہ بتلادیا کہ اسلام امن اور سلامتی
کا عاشق ہے۔

یاد رکھو! پُرنسپیوں سے بھی رشتہ داروں کی طرح
بھاؤ کرو۔ اسلامی بھائی چارہ یہ ہے کہ بھائی کی
ضرورت اور اس کے کام کو مقدم رکھو۔ پہلے بھائی
پھر آپ۔

لڑائیوں کا آغاز

مکہ کے کافر اگرچہ ڈھائی سو میل تھے۔ مگر انہیں
رنج اور غصہ تحاکم اسلام ترقی کر رہا ہے۔ جو بُت پرستی

کی بڑیں اکھاڑ دے گا۔ بتوں کی پوچھا پاٹ سے ہماری عزت ہے اسلام کی ترقی ہماری عزت کو خاک میں ملا دے گی۔ یہودی اگرچہ بتوں کی پوچھا نہ کرتے تھے۔ محسوس درشت اور مذهب کے نام پر جھوٹی جھوٹی باتوں ہی سے آن کی ریاستیں بنی ہوئی تھیں۔

اسلام کی سچائی کو وہ اپنی بر بادی کا پیغام جانتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے صلح کر لی تھی مگر مک کے مہنتوں کی طرح یہودیوں کے مہنت بھی اسلام کی ترقی کو ایک آنکھ ندیکھ سکتے تھے۔

مک کے کافروں نے موقعہ اچھا دیکھا اور مدینہ کے یہودیوں سے ساز باز شروع کر دی اور اسی طرح آس پاس کی دوسری بستیوں کو بھی اسلام کے برخلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی اس سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے ان چالبازیوں کی کاٹ شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جن میں یہ لڑائیاں زیادہ مشہور ہیں۔ پدر، احمد

احزاب، خبر، فتح مکہ، مُوتہ، حین، بیوک۔

بدر کی لڑائی

بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے اس کے قریب یہ لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی کل تعداد ۳۱۳ تھی مگر کل آٹھ تلواریں تھیں، ستر اونٹ اور دو یا تین گھوڑے۔ کافر ایک ہزار کے قریب تھے۔ جن میں سے ہر ایک کے پاس پورے ہتھیار تھے اور ہر قسم کا سامان۔

یہ لڑائی مسلمانوں کے لئے بہت سخت تھی۔ لیکن جھوٹ اور پسخ کا ایک آسانی فیصلہ تھا۔

خدا نے مسلمانوں کی مدد کی ستر کافر مارے گئے جن میں ان کا سردار ابو جہل بھی تھا۔ اور ستر ہی قید ہوئے۔ صرف بارہ مسلمان شہید ہوئے۔ اس آسانی فیصلہ نے عرب کی سرزمیں میں مسلمانوں کو ایک مستقل طاقت بنادیا۔

اسلام کا رحم و کرم

ضرورت تو یہ تھی کہ ان شتر کافرل کو جو قید
ہوتے تھے قتل کر دیا جاتا۔ یہ اسلام کے وہی دشمن تھے
جنہوں نے انتہائی بے کسی اور سخت بے سبی اور مجبوری
کی حالت میں مسلمانوں پر وہ مصیبت کے پھرڑ توڑے
تھے جن کی مثال سے دنیا خالی ہے بے لبوں کو مارا،
شہید کیا، بائیکاٹ کیا، وطن چھڑایا۔ حضور کے ساتھ
گستاخیاں کیں۔ آپ پر پتھر برساتے۔ سجدہ کی حالت
میں خاص اللہ کے گھر میں سر پر اوٹ کی اوجہ لاکر رکھدی
راستوں میں کانٹے پھادیئے۔ پھر آخر میں قتل کا منصوبہ
کیا بیچ کر نکل آئے تو قتل یا گرفتاری پر سو اوٹ کا انعام
مقرر کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

مگر اسلام رحمت ہے پیغمبر اسلام تمام جہانوں
کے لئے خدا کی رحمت ہیں۔ آپ کا خطاب
سَهْمَةُ الْعَالَمِينَ ہے۔ رحمت کا تماشہ دیکھو، نہ کسی کو
قتل کیا جاتا ہے نہ غلام بنایا جاتا ہے بلکہ ان سب کی

رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صرف ایروں سے کچھ معمولی سی رقم
بلور فدیہ لی جاتی ہے۔ غریبوں میں سے پڑھے لکھوں کا
福德یہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک ایک تینی دس دس مسلمان
بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور چھوٹ جانے اور
جو عزیب پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے ان کو مفت
چھوڑ دیا گیا۔

ویکھو! علی کمالات تم بھی حاصل کرو۔ ہر کی دولت
جس کے پاس سے بھی ہو حاصل کرو خواہ وہ تمہارا
قیدی ہی ہو، دوسری قوموں پر رحم و احسان سیکھو
اور یاد رکھو اسلام اخلاق اور احسان سے پھیلائے۔

عُطَفَانَ كَا وَاقِعَهُ

اللَّهُ يَرَبُّكُمْ وَسَرَّهُ بُنْيٰ رَحْمَتُ كَارِجٌ

مدينه میں خبر پہنچی کہ قبیلہ محارب کا ایک شخص دعوثر
نامی ۵۰۰ آدمیوں کو لے کر بے خبری میں لوٹ مار کرنے کے
لئے مدینہ پر چڑھا آ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کچھ ساتھیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ تیاری کی خبر سے

دُعْثور پر ایسا رعب چھایا کہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں میں جا پھپھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو ساتھ لے کر میدان میں پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ادھر ادھر تلاش کیا کوئی نہ ملا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے زمین پر آرام فرمائے لگے۔ تلوار درخت پر لٹکادی آس پاس کے درختوں کے نیچے دوسرے ساتھی ہتھیار کھوں کر آرام فرمائے لگے۔ دُعْثور پہاڑوں سے نکل کر ایک دم سر پر آکھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار قبضائی اور نہایت تجھر سے بولا۔

بناؤ اب کون بچا سکتا ہے؟

حضور نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ "اللہ" خدا کا نام سچے رسول کی زبان پر کچھ ایسی شان رکھتا تھا کہ دُعْثور پر ہیبت چھاگئی وہ تھر تھر کا نینے لگا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی حضور اٹھے اور اس کو پکڑا اور فرمایا۔ اب تجھ کو کون بچائے گا؟ دُعْثور کافر تھا اس کو خدا پر بھروسہ نہ تھا اس کو اپنی قوت پر بھروسہ تھا، یا ظاہری

سان و ساماں پر اب وہ مجبور اور ناچار تھا اپنی موت کا اس کو یقین ہو گیا۔ لگھیا تا ہوا بولا، حضور کے رحم کے سوا کون ہے جو میری جان بچائے۔

نبی رحمت کا جذبہ رحمت جوش میں آیا اور اس کو معاف فرمادیا۔ وہ فوراً اس معجزہ اور رحم و کرم کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

کفر کی حایت میں آیا تھا کہ اسلام کو مٹائے گا، اسلام پر مٹ کر لوٹا کہ کفر کو مٹائے گا۔

مسلمانو! اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ تمہارا رعب دوسروں پر پڑے گا۔

رحم و کرم سیکھو اسلام اسی سے بڑھا اور اسی سے بڑھے گا۔

اُحد

ماہ شوال سنہ

مدینہ کے پاس اُحد ایک پہاڑ ہے۔ بدر کی لڑائی کا بدلہ یعنی کہ کہ کے کافر اسی وقت سے

تیاری کر رہے تھے۔ تیسرا برس تین ہزار جوان لڑائی کاپورا سامان لے کر مدینہ پر چڑھ آئے ابو جہل کی جگہ ابوسفیان ان کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلہ کو نکلے۔ آپ کے ساتھ سات سو مسلمان تھے۔ عبد الرحمن ابی بھی اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر ساتھ ہو لیا تھا مگر ان میں زیادہ وہ تھے جو دکھارے کے مسلمان تھے۔ دل سے کافر اور منافق تھے۔ یہاں بھی انہوں نے وحکما کیا۔ لڑائی سے پہلے بھاگ آئے تاکہ دوسرے مسلمانوں کی ہمت لوٹ جائے۔

بہر حال مقابلہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کو ایک درہ پر کھڑا کر دیا۔ جو اسلامی فوج کی پشت پر تھا تاکہ کافر پیچے سے حملہ نہ کر سکیں۔ ان کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست۔

لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں نے سختی سے مقابلہ کیا۔ کافروں کے پیر اکھڑ گئے۔ میدان سے بھاگ نکلے مسلمان ان کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے لگے۔ درہ والے مسلمانوں

نے خیال کیا کہ اب یہاں ہمارے رہنے کی ضرورت نہیں یہ بھی ہاں سے چل دیئے۔ ان کے سردار نے بہت روکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دیا۔ مگر ان لوگوں نے کہا۔ جب کافر بھاگ رہے ہیں جیت کھلی ہوئی ہے اب یہاں ٹھہرنا کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دس مسلمان درہ پر رہ گئے۔ مگر دشمن تاک میں تھے انہوں نے دیکھا کہ درہ پر چند آدمی رہ گئے ہیں۔ موقع غنیمت سمجھا ان کے ایک سردار نے فوج کا ایک دستہ لے کر اس طرف سے حملہ کر دیا جو لوگ درہ پر تھے ان کو شہید کرتے ہوئے اچانک پیچھے سے مسلمانوں پر آپٹے۔ دوسرے کافر جو آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی سہٹ سٹاکر مقابلہ پر آگئے اب مسلمانوں پر دو طرف سے حملے ہونے لگے ان ناگہانی حملوں سے سخت نقصان پہنچا۔ شتر صحابی شہید ہو گئے ان میں حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کی عورتیں جو حضرت حمزہ کی بہادری سے خار کھائے ہوئے تھیں انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو اپنے جلدے

دول کے پھپھو لے پھوڑ نے لگیں۔ لاش کے کان کاٹے، ناک کاٹی، سینہ مبارک چاک کیا جگہ نکال کر چایا۔ اس افرافری میں آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت زخمی ہوتے دو دن ان مبارک شہید ہوتے۔ خود کی کیلیں رخسار مبارک میں گرد گئیں لیکن مسلمان فوراً ہی سنپھلے اور بھوکے شیر کی طرح بچھٹے بچھڑے ہوتے شیر کی طرح جملہ کر کے ۲۳ کو جہنم رسید کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگرچہ شکست ہوتی ہے پھر بھی حق کا کلمہ بلند رہے گا اسلام فنا ہونے کے لئے نہیں آیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

لہ آہ سِمِ شہادت فنا ہو گی۔ حلودہ ماندہ باقی رہ گیا۔ کون ہے جو راہ حق میں دانت تڑوا کے عشقی رسول کا ثبوت دے۔ وہاں حلودہ کہاں تھا۔ حضرت فاطمۃؓ نے چنانی جلا کر اس کی راکھ رخموں پر رکھی تھی تاکہ تون بند ہو جاتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے شوال کا اور حلودہ کھائیں دو ماہ پہلے۔ عنزہ زور۔ خفائے ہو بات سمجھو۔ نلٹو کو نلٹو کہو اور صحیح کو صحیح۔ بدعت جھوڑ سنت پر عمل کرو۔ دنیا میں سر بلند ہو گے۔ اور آخرت میں سرخرو۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ پر چلا۔

لیکن تم نے دیکھا کہ حکم رسول سے معمولی غفلت نے کیسا نقصان پہنچایا۔ تم اگر صحیح کامیابی چاہتے ہو تو کسی معمولی حکم سے بھی غفلت مت برتو۔ حضور کی ہر ایک سنت کامیابی کی راہ ہے۔ رسول وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے تم اپنی عقل کو حکم رسول کے تابع کر دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم

ختراق کی لڑائی

اُحد میں اگرچہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ ملکر کافروں کی تمنا اب بھی پوری نہ ہوئی۔ تمنا تو درکنار اسلام کی ترقی میں بھی فرق نہ آیا۔

اب انہوں نے پھر تیاری شروع کر دی ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے سارے عرب کو کعبہ کے نام پر بھٹکایا۔ یہودیوں کو بھی ساتھ ملا�ا اور پھر تقریباً پندرہ ہزار کے شکر سے مدینہ پر چڑھاتی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکلنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت سلمان فارسی کی راتے کے موافق مدینہ کے گرد اگر دخندق

انتے پریشان ہوئے کہ مجبور ہو کر بھاگ گئے خدا نے
مسلمانوں کو نجات بخشی۔

دیکھو، تم اگر سردار ہو تو اپنے ساتھیوں سے زیادہ
محنت برداشت کرو۔ ان کے ساتھ مل کر کام کرو۔
پہلے ان کو آرام دو، پھر تم آرام کرو۔ پہلے ان کو کھلاو
پھر تم کھاؤ۔ راہ خدا کی مصیتیوں سے مت گھبراؤ۔
پہلے امتحان ہوتا ہے پھر کامیابی۔

خون لے گناہ

بیرونیہ کا واقعہ (صفر سنہ)

طالب علم اور رضا کار

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس
ایک چھوٹرہ پر چھپر ڈالوادیا تھا۔ اس کا نام صفحہ تھا۔ وہ گویا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ بھی تھا اور چھاؤنی بھی
اس میں طالب علم رہتے تھے۔ مگر یہ ہی طالب علم فوجی
والنیڑ اور رضا کار بھی تھے ان کو نہ وظیفہ ملتا تھا نہ کہیں

(کھانی) پندرہ گز چھوڑی اور تقریباً اتنی ہی گھری کھدوادی۔
اوپر پہرہ بٹھا دیا۔ دشمن اس کو پچاند نہیں سکتے تھے اندر
اتر تے تو مار کھاتے۔ اس طرح مدینہ محفوظ ہو گیا۔
مسلمانوں کے ساتھ حضور بھی خندق کھوڑنے
میں مصروف رہے۔ افلاس کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ
فاقہ پر فاقہ ہو رہے تھے۔ اور وہ کو ایک وقت کا
فاقہ تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وقت کا
سب کے پیشوں پر ایک ایک پتھر پنڈھا ہوا تھا۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر دو۔

ابوسفیان اور اُس کی فوج پندرہ روز مبارک محاصرہ
کئے پڑی رہی۔ مسلمان پریشان تھے محنت مزدوری کے
بند ہو جانے سے فاقوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔
مقابلہ کے لئے ہر دم تیار تھے اگاڑ کا مقابلہ بھی ہوا۔ دو چار
زنگی ہوئے دو چار کافر مارے گئے۔

آخر کار آسمانی فتح نے مسلمانوں کی مدد کی۔ کافروں
کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک سخت آندھی چلی۔ جس سے
کافروں کے نیچے آکھڑ گئے کافروں میں آگ لگ گئی اور

ان کا لکھنا مقرر تھا۔ جب ضرورت ہوتی مزدوری کر لیتے یا جنگل سے لکڑیاں بین لاتے اور بازار میں بچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہتے۔ قرآن شریف، وعظ و نصیحت اور اسلامی احکام سنکریا د کرتے رہتے ان کو اسی واسطے قاری بھی کہتے تھے۔ سوال کرنا ان کے لئے حرام تھا۔

یہ لوگ تبلیغ بھی کرتے تھے اور جب ضرورت ہوتی تو حکم پاتے ہی اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ مگر نہ رسد کا کوئی سامان ہوتا تھا نہ وردی اور نہ ہتھیاروں کا۔ وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر چہیزوں کا سفر طے کرتے تھے اور فتح پا کر واپس ہوتے تھے۔

صرف ہم میں ایک شخص آیا اس کا نام عامر بن مالک تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے اسلام لانے کی فرماش فرمائی تو کہنے لگا اگر کچھ صحابی نجد چلے جائیں تو وہاں بہت سے آدمی مسلمان ہو جائیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا خطرہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ ضرورت کے بموجب عہدہ و معاملہ

لے کر قاریوں میں سے ستر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کر دیا۔

راستہ میں ایک جگہ قیام ہوا اس مقام کے پاس ہی ایک قبیلہ کے سردار کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکتوب بھی تھا۔ حضرت حرام بن ملhan کو اس خط کو پہنچانے کے لئے بھیجا گیا۔ ان کمختوں نے نامہ مبارک تو پڑھا نہیں اچانک حضرت حرام پر پیچھے سے جملہ کر دیا۔ حضرت حرام بن ملhan زخمی ہو کر نیچے گرے۔ بدن مبارک سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، موت نے پر پھیلادیتے تھے۔ دم سینہ میں آگیا تھا مگر یہ شہید و فنا اپنے خدا کی رحمت پر مچل رہا تھا۔ شوق شہادت میں ایکدم پُکار اُٹھا فَرَأَتُوهُمْ فَرَأَتُ الْكَعْبَةَ خدا کی قسم میری تمنا برآئی۔

اس کے بعد ان کمختوں نے آس پاس کے قبیلے والوں کو فوراً ہی اکٹھا کر لیا وہ سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان ستر صحابہ پر اچانک ٹوٹ پڑے۔ اور بے گناہوں کو ایک دم شہید کر دala۔ صرف ایک آدمی کسی طرح بچ گیا۔

مگر دیکھو، اس بے بسی کی موت پر کتنی رحمتی نازل ہوئی۔
مرنے کے بعد خدا نے ان لوگوں کا پیغام تمام مسلمانوں
کو پہنچایا کہ: «خوش خبری ہو۔ ہمیں اپنے پروردگار کا دیدار نصیب
ہو گیا۔ وہ ہم سے خوش ہو گیا ہم اُس سے؟ یاد رکھو! طالب علم وہی ہے جو رضا کار بھی ہو۔
مولوی وہی ہے جو مبلغ بھی ہو اور مجاہد بھی، صرف
کونہ میں بیٹھ جانا کوئی پرہیزگاری نہیں۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ رسول کے فرمانبردار بنو تعالیٰ
حکم کے لئے تیار ہو۔ جان جائے تو جائے مگر تعامل حکم میں
فرق نہ آتے۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھو!
جب دل میں شہادت کی تڑپ نہیں وہ پکا مسلمان نہیں۔

حدیثیہ کا مقابلہ

ذی قعده سنہ ۶

پاپے وطن اور خانہ کعبہ کی زیارت کئے ہوتے پائیج

سال سے زیادہ گزر گئے تھے، ذی قعده سنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا تقریباً چودہ سو مسلمان حضور کے ساتھ چلے۔ مکہ کے قریب حدیثیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ کے کافروں نے راستہ روکا۔ ہر چند سمجھایا کہ صرف زیارت کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہ مانے۔

لبی پڑھی گفتگو کے بعد دس سال کے لئے ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کی رو سے مسلمانوں کو آئندہ سال مکہ شہر میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کا موقعہ ہاتھ آیا۔ اس صلح نامہ میں وہ تمام شرطیں مان لی گئیں، جو مکہ کے کافروں نے پیش کیں۔ مگر یہ صلح حقیقت میں اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ اب تک مسلمان مکہ والوں کی وجہ سے عرب میں نہیں گھوم سکتے تھے۔ لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کا راستہ کھلا۔ قبیلوں میں پہنچے۔ اسلام کی تعلیمات کو بتایا۔ لوگوں نے جب

اسلام کو پہچانا اس کے عاشق ہو گئے۔ دو سال کی مدت میں تین چار ہزار سے بڑھ کر تمیں ہمیشہ ہزار ہو گئے۔ دیکھو! کس طرح تلوارے اسلام کو روکا گیا صلح اور من پسندی سے کس طرح اس کو پھیلایا گیا۔

خبریں کی لڑائی

مدینہ کے یہودیوں نے جو صلح کی تھی اس کو ایک سال بھی نہ بناء سکے۔ ہر موقعہ پر مسلمانوں کو دھوکا دیتے رہے اور دشمنوں کی مدد کرتے رہے۔ احمد کی لڑائی میں عین چنگ کے وقت دھوکا دیا اور تمیں سو کو الگ کر کے لے آئے۔

خندق کی لڑائی میں گھلٹم ٹھلا کافروں کا ساتھ دیا اُن کا سب سے بڑا اڈہ خبریں شہر تھا۔ حضور نے تنگ اگر سکھ میں ان چورہ سو مسلمانوں کو جو حدیبیہ گئے تھے ساتھ لیا اور خبریں پر چڑھانی کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس لڑائی میں بہت کام کیا۔ خدا نے مسلمانوں کو فتح

دی اور خیبر اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گیا۔

فتح مکہ

خدا کے گھر پر خدا کے دین کا جھنڈا

رمضان شریف شنبہ

حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے کافروں نے جو عہد کیا تھا اس کو دو برس بھی نہ بنایا۔ قبیلہ "خزاعہ" جو مسلمانوں کے ساتھ تھا اور اس صلح میں شریک تھا۔ مکہ والوں نے شنبہ میں اچانک حملہ کر کے اس کو تباہ برپا کر دیا۔ اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں معاهدہ کی دھجیاں اڑادیں۔ "خزاعہ" والے بڑے حال فریادی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اور مسلمانوں کے نام کی وہائی دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مجبور تھکے کہ اُن کی مدد کریں اور مکہ والوں کو بد عہدی کی سزا دیں۔ یہ واقعہ ہجرت سے آٹھویں سال رمضان شریف میں پیش آیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی چاہا کہ قریش نے جو ظلم کیا ہے اس کی تلافی کر دیں تاکہ معاملہ رفع درفع ہو جائے۔ مگر قریش نے اکڑا اور گھمنڈ سے کام لیا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ فوراً دس ہزار مجاہدین تیار ہو گئے اور مکہ کی طرف کوچ شروع ہو گیا۔ اور اچانک مکہ پہنچ گئے۔

ابوسفیان (مکہ کا بڑا سردار) مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اس نے ہاراں لی۔ مکہ فتح ہو گیا۔ مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار تھے۔ مگر تواضع اور عاجزی کی یہ حالت تھی کہ سربراک جھکتے جھکتے ہودہ کی لکڑی پر آٹھا تھا۔ جب سردار کی یہ حالت تھی تو غور کرو خدا تعالیٰ فوج کے فرمانبردار رضا کاروں کی کیا حالت ہو گی۔ اور اس رحمت کے لشکر پر تواضع کا کیسا سماں بندھا ہو گا۔

آج مکے کافر جس قدر بھی ڈرتے تھوڑا تھا۔ جس نبی کو ستانے میں جس اسلام کے مٹانے میں ساری طاقت خرچ کر دی تھی اور جن مسلمانوں کو بیس برابر ترپ پایا تھا

آج ان ہی کا غلبہ تھا۔ مگر رحمت اسے کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد پہلا اعلان یہ تھا۔

”جو کچھ آج تک کیا گیا وہ سب معاف نہ اُس پر کوئی ملامت نہ اس کا کوئی بدلہ۔“
دوسرा اعلان یہ تھا:

قریش والو! باپ دادوں پر فخر کرنا، نسب اور خاندان کا غزوہ، زمانہ کفر کا طریقہ تھا۔ خدا نے جاہلیت کے تکبیر کو دور کر دیا ہے۔ سارے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔

خدا کی رحمت چھوٹے اور بڑے سب پر برابر ہے بستی بادل کو نہ کھیت سے بخل ہے نہ پہاڑوں کی پتھری میں زمین سے۔ سب پر برابر بستا ہے، سمندر اور صحراء ہو یا کوہ سار۔

بہت سے آدمی اب بھی مسلمان نہ ہوتے تھے۔ البتہ جو مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کا راستہ کھل گیا تھا، بھی اسلامی جہاد کا مقصد ہے۔
ویکھو! فتح کے موقع پر دائرہ اُس خدا کے سامنے

جھکو جس نے دشمن کو شکست دی اور تم کو فتح -
تم بدلہ کے بجائے رحم و کرم اختیار کرو۔ تم نبی رحمت
کی امت ہو رحم و کرم کے پستلے میں جاؤ۔
درغفول نہ ترست کہ درانتقام نیست

اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بُت

خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
وہاں تین سو ساٹھ بُت رکھے تھے۔ حضور نے ان کی گندگی سے
اللہ کے گھر کو پاک کیا۔ آس پاس کے بتوں کو بھی ٹرپوادیا۔
ایک شخص حضور کے سامنے پیش ہوا وہ رعب کے
نامے کانپ رہا تھا۔ حضور کا ارشاد ہوا۔ "گھبراومت" میں
بادشاہ نہیں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں"۔
حضور چند روز مکہ میں قیام فرمائکر مدینہ واپس ہو گئے،
اور مکہ کا حاکم حضرت عتاب بن اسید کو مقرر کیا جن کی عمر
اس وقت کل احصارہ بریس تھی۔

دیکھو! تمہیں خدا کتنی ہی بڑائی رے۔ مگر تم سر
جھکائے رکھو۔

تمہارے دلوں کے کعبہ پر ایک اللہ کی حکومت ہو۔
طبع، حرص، دنیاوی عزت اور دولت کے بتوں کو
توڑ پکینو۔

جو ان اور لڑکیں خدا کی نعمت ہے۔ تم اس کو کھیل تاشہ
میں امت ضائع نہ رہو۔ تم اس کو راہ خدا میں صرف اور۔
حضرت عتاب کی طرح تھوڑی عمر میں بڑے کمال حاصل
کرلو اور دین دنیا کے سردار بن جاؤ۔

مُوتَةَ كِي لَطَافِي

عِيسَائِيُوں سے جنگ کا آغاز ۹۷

عرب کی سرحد پر شام کی طرف پکھ ریاستیں تھیں، جن
کے نواب نسل سے عرب تھے۔ مگر مذہب کے عیسائی۔
کیونکہ شام کے عیسائی بادشاہ کے باتجہت تھے۔ ان میں سے
بصیری ریاست کے نواب نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کے سفیر کو شہید کر دیا اور لطافی کے لئے آمادہ ہو گیا۔ سفیر کو
مارنا تمام دنیا کی نظر میں ناقابل معافی جرم تھا۔ اس لئے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہہ ضروری سمجھی اور تین ہزار مسلمانوں

کی فوج تیار کر کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمادی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار مقرر کیا اور کوئی حادثہ پیش آجائے تو حضرت ععفر طیار رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت عبد اللہ بن رواحہ کو نامزد فرمایا۔ روانگی کے وقت خاص طور پر بہایت فرمائی۔

”سادھو، عورت، بچہ اور بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے۔ درختوں کو اور باغوں کو نہ کاٹا جائے“ اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو دشمنوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تھی۔ مقابلہ ہوا۔ تینوں سردار یعنی بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ تب حضرت خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ جھنڈا سنپھال لیا اور کامیابی کے ساتھ سارے مسلمانوں کو نکال لائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جس پھر تی اور بیجگری سے بہادری کے جو ہر دکھانے، اس کا اندازہ اسے ہوتا ہے کہ اس روز دشمنوں کو مارتے مارتے نو تلواریں آپ کے ہاتھ میں لوٹ گئی تھیں۔ اور اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ کے نر غدہ میں مسلمان صرف بارہ شہید ہوئے اور عیسائی بے شمار موت کے گھاٹ

اُترے۔ اسی کارگزاری پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دربارِ نبوت سے سيف اللہ کا خطاب ملا۔ حضرت عصر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقيقی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چجازِ بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے تھے۔ آپ کی بہادری اور فدائکاری کی شان یہ تھی کہ راہنما بازو کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ سے سنپھال لیا پھر بایاں بازو بھی کٹ کر گر گیا تو جھنڈا سینہ سے چھا لیا۔ گرنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ بے شمار زخم کا کر شہید ہوئے۔ یہ بھی کمال تھا کہ سب زخم سامنے آتے پشت کی طرف کوئی زخم نہیں تھا۔

اب سنو! اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ اپنے یہاں کتنا بڑھایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ععفر کو جیریل دیسکائیل کے ساتھ اڑتے دیکھا ہے۔ خدا نے ان کو دو بازو عنایت فرمادیئے ہیں۔ وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اُڑ جاتے ہیں۔ اسی لئے دربارِ نبوت سے اُن کو طیار کا خطاب ملا۔ یعنی اُڑنے والے۔

وَكَيْوَا لَهُ نَدَمٌ مِّنْ أَسْكَحُوا! حضرت خالد کی طرح فیلیو اش
بنو۔ اور حضرت ععفر کی طرح زندہ جاوید۔ رضی اللہ عنہما

نظر

کفر ہے مذہب میں تیرے عشرت دنیاہ دول
وقت ہونا چاہیئے حق کے لئے مسلم کا نوں

پھول ہے واللہ جبر و ظلم کا اک اک شرار
موت کیا ہے زندگی کا ایک جام خوشگوار
تجھ کو ہر باطل کی قوت سے الجھنا چاہیئے
موت کے کاظموں کو فرشِ گلی سمجھنا چاہیئے

دیکھ ہو جائے نہ رسول عظمتِ دینِ متین
غیر کے در پر نہ جھک جائے کہیں تیری جیں

درس قربانی کا جوشِ جرأتِ خالد سے لے
وقت ہے پھر موت کے دریا میں گھوٹے خالدے

اے خدا! دے زور بارو خالد و حیدر ہمیں
پھر اُنہا ہے صفر کفر و در خیبر ہمیں

تبوک کی لڑائی عیسائیوں سے دُوسری جنگ

افلاس، تنگ دستی اور مسلمانوں کے حوصلے

جادی الثانیہ سفہ میں خبر پہنچی کہ عرب کی اُسی سرحد پر جس طرف مُوت کی لڑائی ہوئی تھی کتنی لاکھ عیسائی اُنھے ہو گئے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا تاکہ دشمن کو سرحد ہی پر روک دیں۔ اکتوبر کا ہفتہ تھا اس ہفتہ میں عرب میں گری سخت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قحط کا دور دورہ، کمیتیاں تیار مسلمانوں کے ہاتھ خالی دور کے سفر میں کمیتیاں برپا ہو۔

مگر جوں ہی سرداروں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا، راہ خدا میں قربان ہونے والے پچھے مسلمانوں نے کمریں باندھ لیں۔ آئندہ فائدوں کی امیدوں کو شکرا دیا۔ گرمی اور تنگ دستی کی ساری مصیبتوں سے بے پروا

ہو کر راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہے مسلمان کی شان! اسی طرح چندہ دینے میں نہ گنجائش کا خیال کیا نہ چیزیت کا، خوب دل کھول کر چندہ پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جو کچھ گھر میں تھا حضور کے قدموں پر لاکر ڈال دیا۔ حضور نے دریافت فرمایا۔ ”بچوں کے لئے کیا چھوڑا“ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ”اللہ کافی ہے“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا اُس کا آدھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دس ہزار دینار تین سو اونٹ اور اُن کا سامان پیش کیا۔

تیس ہزار کا ایک لشکر تیار ہو گیا مگر کچھ مسلمان لیسے بھی تھے جن کا سامان نہ ہوا کا۔ لیکن جب لشکر روانہ ہوا تو فدا کاروں کی یہ جماعت اپنی بے لبی پر رورہی تھی۔ جب لشکر اسلام اس علاقے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ چند روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جائیں گے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا اور تین سو صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لئے

اَللّٰهُ حُسْنُ صَلَوةِ عَلِيٍّ وَسَلَوةُ خَيْرٍ لَمَّا دَعَى مَدِينَةَ وَأَپَسَ تَشْرِيفَ

لَمَّا آتَيَ.

وَيَحْكُمُوا! خَدْمَتُ اِسْلَامَ كَوْنَهُ جَذَبَاتٍ پَسِيدَ اَكْرَدَهُ
نَّمَّصِيَّتِنَّ اُنَّ كُوْمَرَدَهُ كَرْسِكَيْنَ اوْرَنَهُ طَبَعَ انَّ كُوْتُهُنَّ اَكْرَسَكَهُ
مَالَ وَدُولَتَ اَوْلَادَ اَقْرَابَ اَسْبَعَ هُرُونَ جَوْكَهُ تَهَارَےَ
سَامِنَهُ هُوَ وَهُ الْمُرَأَةُ اَوْرَاسُ كَارَسُولُ هُوَ۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

حج اسلام

ذی الحجه سنه ۹

گذرستہ سال کے فتح ہو چکا اسلام کا کعبہ مسلمانوں کو مل چکا جس کی طرف رخ کر کے وہ سماز پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے عقل کے اندھوں نے اس کو بُت خانہ بنارکھا تھا۔ اب وہ بتوں کی گندگی سے پاک ہو چکا ہے۔ اس سال اسلامی احکام کے موافق حج ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جائیں گے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا اور تین سو صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لئے

روان فریادیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حکم پاکِ ان کے ساتھ جاتے۔ مکہ پہنچ کر اعلان کیا گیا۔

”آنندہ کوئی مشرک مسجد حرام میں نہ آسکے گا
رنگے بدن کوئی طواف کر سکے گا“

خانہ کعبہ کیا ہے | خانہ کعبہ ایک کمرہ ہے تقریباً ۱۵۰ متر پندرہ گز چوڑا اور تقریباً اتنا ہی بلند ہے۔ اس کے گرد اگر جو احاطہ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں اور مکہ اس شہر کا نام ہے جس میں یہ خانہ کعبہ اور یہ مسجد حرام ہے۔

سفر آخرت کی تیاری

ستھن

بڑے بڑے معزے سر ہو چکے۔ اگرچہ اطمینان اب بھی نصب نہیں ہوا۔ مگر خدا کے فضل سے مسلمان ایک مستقل حکومت کے مالک ہو گئے۔ عرب قبیلوں کے اسلام لانے کا سلسلہ صلح حدیبیہ کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد تو اور بھی زیادہ اسلام کا چرچا ہو گیا۔ اب

اسلام کی جھک سے سارا عرب معطر ہو چکا ہے۔ ہر طرف سے عربوں کی ٹولیاں آرہی ہیں۔ اور اسلام کی دولت سے ملا مال ہو کر جا رہی ہیں۔

لیکن اسلام کی کامیابی اور دن دوپنی ترقی دیکھ کر تاڑ نے والی نگاہیں تاڑ رہی ہیں کہ اب روحِ محمدی (قربان) ہوں آپ پر ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں، دنیا میں زیادہ رہنا پسند نہ کرے گی کیونکہ تشریف لانے کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو چکا۔

پچھے دین کی تعلیم ممکن ہو گئی۔ دلوں کی زمین میں اسلام کا باع لگ کر پھل لانے لگا۔ اسلام کا ایک مرکز فائز ہو گیا خدا کا نور محفوظ ہو گیا۔ جو ہزاروں آندھیوں سے بھی نہیں بچے سکتا۔ یعنی نبوت اور رسالت کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا۔

جوں جوں اسلام کی ترقی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوعِ خضوع، یادِ الہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر کاتھا ہے کہ آرام فرمائیں۔ مگر سردار انبیاء کو آلام سے کیا واسطہ؟ (صلی اللہ علیہ وسلم) یادِ خدا میں راتوں کھڑے رہنے

حج وداع

یعنی رخصتی حج
ذوالحجہ سنتہ

خدا کے سارے حکم پہنچا دینے گے۔ ان پر عمل کرا دیا گیا
صرف ایک فرض باقی رہ گیا۔ یعنی حج بیت اللہ۔ اس پر عمل
کرانا باقی ہے۔ بھرت کے دسویں سال ذی قعده کے شروع
میں عرب میں حج کا اعلان کرا دیا گیا۔ سب طرف سے مسلمان
جوق جوئی آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک
سواری ۲۶ ذی قعده کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئی۔ شمع رسالت
کے گرد اگر دہزادوں پروانوں کا ہجوم ہے۔ باقی پروانے آتے
جلتے ہیں اور راستہ میں مٹتے جاتے ہیں۔

یہ ایمان اور اسلام کے شہسواروں کا نورانی قافلہ ہے۔
جس کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشق آقا کی
رحمت و شفقت کا سایہ ہے یہ قافلہ اپنی خوش قیمتی پر اٹھاتا
ہوا چل رہا ہے۔

۴۱

سے پائے مبارک پھنسنے لگتے ہیں۔ پنڈیوں پر ورم آ جاتا ہے۔
صوم وصال یعنی دو دو تین تین دن بلا افطار کئے روزہ رکھنا
امت کے واسطے منع ہے۔ مگر آخری رسول کی خاص عبادت
ہے آپ کے لئے جائز ہے۔ اور آپ ایسے روزے رکھتے
رہتے ہیں۔

اگرچہ عمر ایسی زیادہ نہیں۔ مگر لگاتار پریشانیوں اور
بلے آرامیوں کے سبب سے کمزوری بہت زیادہ برڑھ گئی آرام
نہ ملنے کا اثراب بدن مبارک پر پڑنے لگا۔ سجدہ میں پہنچنا
اور آٹھنا مشکل ہو گیا۔ تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں اب بھی
پڑھتے مگر اکثر ایسا ہوتا کہ بیٹھ کر پڑھتے۔

تم اگر عاشق رسول ہو تو محبوب کی اداسکو جوں جوں
بڑھو خدا کی یاد زیادہ کرو۔ جوانی میں بڑھاپے کے لئے
وہ شر لے لو۔

* * *

۴۰

ذی الحجہ سننہ کی چوتھی تاریخ ہے۔ رحمت کا شکر
بلد حرام میں داخل ہو رہا ہے۔ مکہ کی زمین پاک قدسیوں کی
برکت لے رہی ہے اللہ کا گھر استقبال میں کھڑا ہے۔ کم و بیش
سوالاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔

قواعد حج کے موافق ۹ ذی الحجہ کو مقام عرفات پر
سب حضرات بہنچتے ہیں۔ گویا نور کا میلہ لگتا ہے۔ نوافی بزرگوں
کا بادشاہ اپنی اونٹی پر ایک تقریر فرماتا ہے۔ اس کا ایک
ایک فقرہ دنیا کے لئے ترقی اور ہدایت کا سبق ہے۔ چند
جملوں کا ترجمہ یہ ہے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدائے واحد کے سوا کوئی
معبد نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندہ کو
کامیاب کیا۔

تن تنہا تمام ٹولیوں کو پسپا کر دیا وہی تعریف کامستحی
ہے۔ ہم اُسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اُسی سے مدد چاہتے ہیں۔
اُسی سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور گواہی دیتے ہیں کہ اس ایک
معبد کے سوا کوئی معبد نہیں اور محمد اس کا بندہ اور پیغمبر ہے۔
لوگوں میں تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں۔

دیکھو! صرف چار چیزیں ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
کسی کی ناحی جان نہ دو۔ زنا نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔ اے لوگو میرے
بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نبی امت نہیں۔
کیا تم سنتے نہیں، لوگو سنوا اپنے پروردگار کی عبادت
کرو۔ پانچوں نمازیں پڑھو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ
ادا کرو۔ جس کو تم اپنا امیر بناؤ اس کی فرمانبرداری کرو اور اپنے
رب کی جنت میں خوش خوش داخل ہو جاؤ۔
لوگو میری سنو! سنو شاید تم اس کے بعد مجھے نہ دیکھو گے۔
اے لوگو! اپنی عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر۔ تمہارا
حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری آبرو کی حفاظت کریں۔
کوئی بد کاری عمل میں نہ لائیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ
خوش ولی سے کھانا کپڑا دو۔ عورت اپنے گھر سے شوہر کی اجازت
کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔
دیکھو! عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ خدا کی
بندیاں ہیں۔ خدا نے تم کو ان پر بڑائی دی ہے۔ عورتوں کے
معاملہ میں خوف خدا سے کام لو۔
اے لوگو! سنو، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک شام یا

اس پر آپ نے فرمایا۔ " خدا یا گواہ رہ، خدا یا گواہ رہ،
خدا یا گواہ رہ " پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ " دیکھو، جو یہاں
موجود ہیں، وہ سب باتیں آن کو پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں " اسی موقع پر خدا کی طرف سے دین کے مکمل ہونے کی
تصدیق بھی نازل ہو گئی۔ یعنی خدا کا فرمان نازل ہوا جس کا
مطلوب یہ ہے۔

" آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تم پر خدا کی نعمت پوری
ہو گئی۔ تمہارے دین سے خدا تے تعالیٰ راضی ہو گیا " صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْأَلَّٰهِ وَّأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

آفتابِ اسلام مغرب میں

خدا کا دین مکمل ہو گیا۔ انسانوں نے بہت کچھ گزینی
مودیں۔ آخر کار سارے عرب کی گزینیں ایک خدا کے سامنے
بچک گئیں۔ اسلام کی پائیزگی دلوں میں رچ گئی۔ خدا پرستی کا
رنگ سب پر چھا گیا۔ کفر، شرک اور معصیت سے نفرت
ہو گئی۔ نبی کا کام مکمل ہو گیا تو اب پیغامِ رخصت کا انتظار
تھا۔

ایک صبح چلتا بھی دنیا اور دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔
اے لوگو! میری سنو اور زندگی پاؤ۔ خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار
ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی شخص کی بھی مال بغیر اس کی رضا مندی
کے لئے یعناردا نہیں یہ

مسلمانو! خبردار، خبردار میرے بعد گمراہ اور کافر مرت ہو جانا
کہ آپس میں گروہ نیں مارتے پھر وہ

میری سنو اور خوب سمجھو، یاد رکھو! ہر مسلمان ہر مسلمان کا
بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ دیکھو، آپس
میں ظلم مبت کرو، کسی کی آبرو مرت گراو۔

میں تم میں دو چیزوں پچھوڑے جاتا ہوں۔ جن کے ہوتے
ہوئے تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ بشرطیکہ انہیں مضبوطی سے پکڑے
رہو۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اُس کے نبی کی سنت۔

" کے لوگو! بتاؤ، میں نے خدا کے احکام پہنچا ریتے، جب
تم سے میری بابت سوال ہو گا۔ تو کیا کہو گے؟ "

سب نے جواب دیا۔ " ہم گواہی دین گے آپ نے اللہ
کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا۔ امانت ادا کر دی۔ نصیحت میں کوتا ہیں
نہیں کی یہ " ۔

ہر صفرِ المھر کو سرمبارک میں درد شروع ہوا، بخار ہوا، تیز ہو گیا۔ بے چینی بڑھ گئی۔ کمزوری زیادہ ہو گئی۔ نماز کے لئے جانا بھی دوبھر ہو گیا۔ سہارے کے بغیر چلانہ جاتا رفتہ رفتہ یہ طاقت بھی نہ رہی۔ سترہ نمازیں گھر ہی میں ادا کیں۔ اسی دوران میں فرمایا۔

”تم سے پہلے قومیں گزر چکیں ہیں جو نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتی تھیں۔ خدا کی ان پر لعنت ہوئی تم ایسا نہ کرنا۔“

۱۲ ربيع الاول پیر کی صبح کو کسی قدر سہولت ہوئی۔ جگہ کا پردہ اٹھایا، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی۔ چہرہ اندر پر نمازوں کی نظر پڑی۔ گویا قرآن مقدس کا نورانی صفحہ تھا۔ آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت میں شریک ہوئے۔ صدیق اکبر امام تھے۔ ان کے پیچے بیٹھ کر آپ نے نماز ادا کی۔ یہ آخری تشریف آوری تھی یہ مگر افسوس یہ شکل آلام کی نہ تھی۔ یہ ایک آخری

لہ فتح القدر شیخ ابن ہبام

سبھالا تھا۔ دوپھر کے وقت تکلیف بڑھی۔ پیاس کا غلبہ ہوا۔ مسوک فرمائی۔ امت کو آخری پیغام پہنچایا۔
 الْأَصْلُوْةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 نماز، نماز۔ نوبتیوں اور غلاموں کے حقوق۔
 پھر روح نے خالق کی طرف رُخ کیا۔ محبوں حقیقی کو یاد کیا۔ اور اللہُمَّ بِالشَّفِيقِ الْأَعْلَى مِنْكَ مُنْكَرٌ
 عالم بالا کی طرف رُخصت ہو گئی۔
 إِنَّا لِلّهِ وَرَأَنَا إِلَيْهِ سَاجِدُونَ ط
 صحابہ حواس باختہ ہو گئے۔ مدینہ میں تہلکہ پج گیا۔ درود لوار پر اداسی چھائی۔ تخت نبوت ہمیشہ کے لئے خالی ہو گیا۔ فرشتوں نے ماتم کیا۔ غیبی آوازوں نے تعزیت کی۔
 صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تم مقدس زندگی کے حالات پڑھ چکے۔ اب ان کو سامنے رکھو اور دل سے کہو۔

لہ اے اللہ رفیق اعلیٰ کی رفاقت عطا فراز۔ یعنی اس رحلت کو اپنے تقریب کا ذریعہ بنا۔

أَشْهَدُ أَنَّ لَدَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ كُوَافِيٍ وَيَا هُوَ كَالثَّرَكَ سَوَا كُوَافِيٍ مَعْبُودٌ نَهْيَنَ.
أُورَمِيٍ كُوَافِيٍ وَيَا هُوَ كَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَبَدَ
أُورَاسَ كَرَسُولٍ هِيَنَ.

اور پھر تہ دل سے پڑھو۔

يَارَتِ حَلَّ وَسَلَمَ دَائِشَمَا آبَدَا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَاقَنِ كُلِّهِمْ
خَداونِدَا بَهِيشَهِ بَهِيشَهِ صَلَوة وَسَلامَ نَازِلَ فَرَا اپنے مُحْبُوبَ
پُر جو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں ॥
شاید اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اس مقدمہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عقائد کی تعلیم فرمائی اس کا جواب
چار صفحوں کے بعد دوسرے حصہ میں آپ کو ملے گا۔
اس وقت ان تمام باتوں کا جو بیان کی گئی ہیں خلاصہ
یاد کر لیجئے۔

وَاللَّهُ الْمُعِينُ

خُلاصہ: تاریخ وار سیرت مُقدَّسَہ

والدہ کی وفات کے بعد	۹ ربیع الاول
سرپرست	دو سال بک اپنے والدہ کی وفات کے بعد عبدالمطلب کی تربیت میں رہے ان کے بعد خواجہ ابوطالب نے سیرتی کی۔
ولادت باسعادت	روشنیہ طابیہ
عبدالمطلب کی تربیت میں رہے ان کے بعد خواجہ ابوطالب نے سیرتی کی۔	۲ رابریں ۱۵ء بوقت صبح۔
کسب معاش	عبداللہ بن عبدالمطلب
لقو بیان	ابن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب۔ کل ۲۴ سال عمر ہی۔
کسب معاش	لقو بیان
کمزوری پر برجیاں چلانی	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دو ماہ پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ جبکہ شام سے واپس ہوتے ہوئے چند روز کے بعد اپنی نائیہاں میں ٹھیر کئے تھے۔
کمزوری پر برجیاں چلانی	امنیت وہب بن
عمر بارک تقویاً ۲۷ سال تھی تو حضرت خدیجہ	والدہ ماجدہ
کے انجمن کی حیثیت سے شام کا تجارتی سفر	عبدمناف۔ مدینہ سے واپسی پر مقام ابوالیں انتقال ہوا جبکہ اس دیتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی۔
کیا حضرت خدیجہ کے غلام میرہ آپ کے	رضاعی والدہ
ساتھ تھے۔	جو ابو جہل کی باندی تھیں پھر حضرت خلیفہ عاصی کو یہ شرف حاصل ہوا۔
نكاح	چند روز بیسے نے دو درخواستیں
جس عبارک ۵ سال ہوئی تو	ام این رضی اللہ عنہا۔
نكاح	دیتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی۔
حضرت خدیجہ یہو تھیں ان کی عمر ۳۰ سال تھی اور ان کے اولاد بھی تھی۔	اما
اوادر	اما این رضی اللہ عنہا۔
چھ بھی حضرت خدیجہ سے ہوئے	
اوادر	
قسام و طاہر جو بھپن ہی اس وفات پائے	
زینب کلموم و قیمہ اور زاطہہ یہاں رضا جزادیاں	

بڑی ہوئیں جو ان ہو کر شادی بیام کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ایک لڑکا اپنے نام حضرت ماریہ قطبیہ سے ہوا جو بھیں ہی میں وفات پائیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا نندہ ہیں۔ ان کے دو صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ چلا۔

نبوت سے کچھ پہلے حضرت پہاڑ کے تھا رہنا شروع کر دیا وہی خدا کی یاد کرتے رہتے۔

نبوت حضرت خدیجہ اور خواجہ ابوطالب کی وفات ہوتی۔

معراج شریف اسی سال (عنی سنہ مطابق ۱۲ روزِ ستمبر ۶۲۷ق) میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی جس میں عرش و کرسی کی سیر کرانی گئی اور دیدار خداوندی اور شرف سنبھالیا گیا۔

عورتوں نے دوسری مرتبہ بوت سے ساتوں سال ۸۳ مرا اور ۱۸ عورتوں نے کام عذر

پائیکاٹ قریش نے آپ سے پائیکاٹ کیا اس عرصہ میں آپ اور آپ کے ساتھی شعب ابی طالب میں پناہ گزیں سپے۔ تین سال تک یہ مقام طویل جاری رہا۔

نبوت کا خاتمہ حب عمر مبارک ۵ سال تھی اور نبوت کا دوسرا سال تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہ اور خواجہ ابوطالب کی وفات ہوتی۔

معراج شریف اسی سال (عنی سنہ مطابق ۱۲ روزِ ستمبر ۶۲۷ق) میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی جس میں عرش و کرسی کی سیر کرانی گئی اور دیدار خداوندی اور شرف سنبھالیا گیا۔

سفر طائف نبوت کیا رہوں سال، حضرت علی، غلاموں میں حضرت نبی بن حازم پاندیوں میں حضرت ام امین رضی اللہ عنہم، سفر جدش سے پہلی مرتبہ نبوت سے پاچوں میں مقتول است اسیں اسلام کی دعا کی جیگئی۔

حدیث طیبہ میں قیام اور مسجد ابوالیوب حضرت کے موقع پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ اگلے سال چھ پھر اگلے سال بارہ آدمی مشرف ہوئے اور انصاری رضی اللہ عنہ کے ہیاں قیام رہا اور اسی کے قریب وہ مسجد غوثی جسی جس کو جذبیوں کہا جاتا ہے (صلی اللہ علی صاحبہ وسلم) مساجد میں پہنچنے (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے مجاہدوں میں پہنچنے (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے مجاہدوں انصاری صاحبوں میں بھائی چاروں قائم کیا حضرت انصار نے ہمارے بھائیوں کو اپنی بائیں ارادوں میں بھی شرک مان لیا۔ مسلمانوں کے علاوہ خیز مسلموں سے صلح اور امن سے بہنے کامباہدہ کیا۔ **غزوہ بدرا** ۱۳ ربیوالہ میہ دیوالی پارچ میہ دیوالی یکم بیس الاول ۱۳ ستمبر ۶۲۷ق دو شنبہ کے دن غار ثور سے روانہ ہوئے۔ تین روز بعد ۱۴ ربیوالہ ۱۴ ستمبر ۶۲۷ق جمعتوں کے درختاں میں رونق افزون ہوئے۔ ہیاں ایک مسجد تعمیر کرنی مسلمانوں کے ہام جلسے میں تقریر فرمائی۔

سفر بحیرت کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اپنے غلام عمر بن فہر و خادم کی حیثیت سے اور عبد اللہ بن اریق پیار استرنانے دلے کی حیثیت سے۔

نتیجہ جنگ مسلمان بارہ شہید ہوں تر مقتول است اسیں اسلام کی دعا کی جیگئی۔

دُو سَرَاحَصَمَّ

اسلامی عقائد اور احکام

ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی آپ پڑھ چکے، اب وہ باقی سمجھوا دریا در کھو جن کی تعلیم آپ نے دی اور جن کو سکھانے اور بتانے کے لئے آپ کو رسول بننا کر بھیجا گیا تھا۔
یہ عجیب بات ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم کا خلاصہ ان دو لفظوں میں آجاتا ہے۔

۱—**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
۲—**حَمْدُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ**

ان دونوں لفظوں کو طاکر پڑھو۔
کلمہ طیبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَمْدُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ**
اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں اور اس کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں کیونکہ اسلام کا مدار انہیں دو لفظوں کے مانتے پڑے ہے۔

خطفان کا واقعہ | ستمہ

جنوری نئانے چہار شنبہ کے روز عصر کے بعد مدینہ طیبہ سے روانچی ۱۹ ارب رمضان المبارک کو حدود مکہ میں نزول، ۲۰ ارب رمضان المبارک مطابق ۱۴ جنوری نئانے کو کلمہ عظیم فاتحہ زادہ خاطر اور نتیجہ جنگ اور جب ۲۹ ارب نینہزار مسلمانوں کو شکست ہوئی بترخواہ شہید ہوتے۔
بغیونہ کا واقعہ [اصغر نیم جولائی ۱۲۵۶ء] مجاہدین کی تعداد میں ہزار خندق کی راستی ذی قعدہ شعبہ (غزوہ احزاب) مارچ ۱۲۵۷ء حضرت ابو مکہ صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشکنیں کے لئے چار ہیئت کی ہبات کا اعلان کیا۔
حج و راجع [دینیہ طیبہ سے روانچی ۱۲۵۸ء] اخضرات صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ۲۹ ارب ذی قعدہ نئانے ۱۲۵۹ء ہرزی الجیرہ روز اوارک میں پہنچ۔

مرض الوفات [۱۲۵۹ء صفر نیم ستمہ] میں کوسر مبارک میں درد شروع ہوا جس سے مرض الوفات کا آغاز ہوا۔
وفات [۱۲۶۰ء ربیع الاول نیم ستمہ] روز شنبہ فتح مکہ ۱۲۶۰ء ارب رمضان المبارک ستمہ

معنی اور مطلب | کلمہ طبیبہ کے معنی یہ ہیں۔
نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔
محمد رسول ہیں اللہ کے۔

مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے جس کی عبادت اور پوجا ہونی چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی پوجا کی جاسکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔

تفسیر | اب کلمہ طبیبہ کی تفسیر سمجھو۔
اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی تمام تعلیم کا خلاصہ اور نجھٹ ان دو لفظوں میں کیسے آگیا۔ یہ تفسیر سوال اور جواب کے انداز میں پیش کی جا رہی ہے،
کیونکہ اس طرح سمجھنے میں آسانی رہے گی۔

سوال: اللہ کے معنی بتاؤ۔

جواب: اللہ کے معنی ہیں معبود۔ یعنی جس کی پوجا کی جائے۔

سوال: اللہ کون ہے؟

جواب: اللہ نام ہے اُس ذات کا جو اس کا مستحق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے جس کو خدا بھی کہتے ہیں۔

جس نے ہم کو، ہمارے ماں باپ، اولاد، جائیداد، گاتے بل،
چھوٹے بڑے تمام جانداروں کو پیدا کیا۔ زمین پیدا کی۔ آسمان
بنایا اس کوتاروں سے بجا یا۔

جس کے حکم سے آفتاں نکلتا اور چھپتا ہے۔ چاند
لکھتا بڑھتا ہے۔ ہوا میں چلتی ہیں۔ بارش برستی ہے غل
پیدا ہوتا ہے۔ جو سب کو پالتا ہے۔ روزی دیتا ہے۔ مارتا
ہے۔ جلاتا ہے۔ جس نے رنگ برنگ کے پھولوں پیدا
کر کے ان میں قسم قسم کی خوشبو رکھی۔ پھلوں میں طرح طرح
کے مزے رکھے۔ بھانست بھانست کی پتیاں بنائیں۔ ہر ایک
چیز کو الگ الگ صورت دی۔ انسان کو عقل اور سمجھ دی۔
علم دیا۔ بڑی ہے اُس کی قدرت۔ پاک ہے اُس کی ذات۔
نہیں کوئی معبود اس کے سوا۔

اللہ کے متعلق عقیدے

سوال: خدا کے متعلق مسلمانوں کو کیا اعتقاد رکھتا پاہیئے۔
جواب: مسلمانوں کو اعتقاد رکھنا چاہیئے کہ:
(۱) خدا ایک ہے۔

(۲) صرف خدا ہی بندگی اور پوجا کے لائق ہے۔ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔
 (۳) اس کا کوئی شریک نہیں کوئی ساجھی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔

(۴) وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔

(۵) وہ خود سے ہے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔

(۶) اس کے ماں باپ ہیں نبیلہ میٹی نہ رشتہ دار نہ مددگار، وہ ایک حکم سے جو کچھ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

(۷) وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔

(۸) تمام خوبیاں اصل اس کی ہی ہیں دنیا بھر میں جو کچھ خوبیاں ہیں وہ اس کی ہی دی ہوئی ہیں۔

(۹) اس کو ایک ایک فرہ کی خبر ہے۔ زمین یا آسان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔

(۱۰) وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔

(۱۱) وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ وہی تمام خلق کو روزی دیتا ہے۔ یعنی سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔

(۱۲) اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی شان بہت بلند ہے۔ ہماری عقل گویا ایک ذرہ ہے ذرہ صرف یہی پہچان سکتا ہے کہ میری چمک دمک آفتاب کا صدقہ ہے مگر وہ کیا جانے کہ آفتاب کیا ہے۔

(۱۳) ہماری آنکھ آفتاب پر نہیں سمجھ سکتی اگر کسی کا نور آفتاب سے بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ بے شمار درجہ زیادہ ہو تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مثال خدا کے نور کی سمجھو۔ پس وہ ظاہر ہے مگر ہماری آنکھوں کو تاب نہیں کر سکتی۔ لہذا وہ ظاہر ہوتے ہوئے باطن ہے۔ یعنی پوشیدہ ہے مگر یہ پوشیدگی کسی گاڑھے پر دہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بے انتہا نور کی وجہ سے ہے وہ زمین و آسان کا نور ہے اللہ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورٌ ہے آسانوں اور زمین کا۔ کسی نے خوب کہا۔

بے جوابی یہ کہ ہر ذرہ سے ہے جلوہ آشکار

اس پر گھونٹ گھونٹ یہ کہ صورت آج تک نادید ہے

(۱۴) اس کا کوئی کارہ نہیں یہ

لہ لہ لکڑی یا عرش پر بیٹھا۔ منتقل ہونا۔ چنان پھرنا۔ ان سب سے اس کی ذات پاک ہے۔

جیسے مسجد کو خدا کا گھر کہتے ہیں۔ مگر کیا خدا اس میں
امتحنا بیٹھتا ہے یا اس میں رہتا ہے۔

(۲۰) اُستنا، کلام کرنا، دیکھنا، جانتا اس کی صفتیں ہیں،
مگر چونکہ وہ محتاج نہیں لہذا اس کو کان زبان آنکھ وغیرہ کسی
آلہ یا عضو کی ضرورت نہیں۔

وہ ایک، اُس کی ذات ایک۔ اُس کی شان نزالی، اُس
کی صفتیں انوکھی، اُس کی حقیقت عقل کی پرواز سے بالا،
اُس کی قدرت احاطہ سے باہر، اُس کی طاقت بے پناہ، اُس کی
ہستی بے کنارہ۔

وہ وہی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا ہے؟ کوئی نہیں
جانتا کہ کیا ہے۔ اتنا سب جانتے ہیں، کہ ہے۔ کوئی عقل کا
اندھا عیش کے وقت بھول جاتا ہے مگر مصیبت کے
وقت اُس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہے اور وہی ہے مصیبوں
کا دُور کرنے والا۔ فریادی کی فریاد سننے والا، وہی ہے اور صرف
وہی ہے، سب کچھ کرنے والا، مارتے جلتے والا۔ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ
وَلِيُّمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَىٰ

(۱۵) اس کو کوئی جگہ گھیرے ہوتے نہیں، زنگھیر کتی ہے۔

(۱۶) وہ ہر جگہ ہے۔ زمین آسمان اور تمام مخلوق اس
کے احاطہ میں ہے۔

(۱۷) نہ وہ کسی چیز کے مشابہ نہ کوئی چیز اس کے مشابہ۔

(۱۸) کیونکہ ہر چیز کا ادل اور آخر ہے۔ اس کا نہ
اول ہے نہ آخر۔ ہر چیز کسی ایک سمت میں ہے اور وہ
سب طرف، سب جگہ ہے۔ ہر چیز محتاج، وہ ہر حاجت سے
پاک، ہر چیز پیدائی ہوئی، اور وہ پیدا کرنے والا۔ وہ خود سے
ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔

(۱۹) کھانا پینا، اُستھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، سونا،
جانا، لانبا چورڑا ہونا، چلنا، پھرنا، اُترنا، چڑھنا، موٹا پتلا ہونا،
حرکت کرنا، تھکنا، بیمار ہونا وغیرہ وغیرہ وہ ان تمام مادی
جھنگڑوں سے پاک ہے کیونکہ یہ سب مخلوق محتاج کے جھنگڑے
ہیں۔ وہ نہ مخلوق ہے نہ محتاج ہے۔

سوال: تو پھر خدا کے عرش پر ہونے کا کیا مطلب اور
خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کیوں کہتے ہیں؟

جواب: مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں خدا سے خاص تعلق رکھتی ہیں

گناہ نہیں کرتے، بھوٹ نہیں بولتے، دھوکا نہیں دیتے،
دنیا کا کوئی خوف یا کوئی لایچ ان کو اپنے کام سے نہیں روک سکتا،
وہ کسی سچے نبی کی توہین یا بے ادب کبھی نہیں کرتے، خدا کے حکم
پورے پورے پہنچادیتے ہیں نہ کسی زیارتی کرتے ہیں نہ کوئی حکم
چھپاتے ہیں۔

عالی خاندان ہوتے ہیں۔ عالی حسب، عالی ہمت، وہ خدا
کے حکم سے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو خدا کے سوا کسی کے قابو
کی نہیں ہوتیں۔ تمام دنیا ان سے عاجز ہو جاتی ہے۔ وہ نہ جادو
ہوتا ہے نہ شعبدہ بلکہ خدا کا حکم ہوتا ہے جو نبی یار رسول کے
ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔
سوال: معجزہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟

جواب: تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی خدا ہی کا بھیجا ہوا
ہے اور جو اسلام لاچکے ہیں ان کے ایمان میں تازگی اور
یقین میں زیارتی پیدا ہو۔

سوال: نبی یار رسول خود ہو جاتا ہے یا خدا کے بنانے سے۔

جواب: خدا کے بنانے سے (یعنی یہ مرتبہ صرف خدا کی دین اور
اس کی بخشش ہے) آدمی کی کوشش اور ارادہ اس مرتبہ

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں۔ تنہا ہے۔ اس
کا کوئی ساجھی نہیں۔ ملک اسی کا ہے۔ تعریف اور شکر کا وہی
مستحق ہے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بھلانی اسی کے قبضہ میں
ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

نبی یار رسول

سوال: نبی یار رسول کس کو کہتے ہیں؟
جواب: نبی یار رسول خدا کا وہ پاک بندہ ہے جس کو خدا نے دنیا
میں بھیجا ہوتا کہ بندوں کو سچا نذر ہب سکھاتے۔ سیدھی
راہ سمجھاتے۔ بری باقتوں سے روکے اچھی باتیں بتاتے۔

سوال: نبی یار رسول کی شان کیا ہے؟
جواب: وہ خدا کے سچے ماننے والے ہوتے ہیں۔ نہ کبھی اُس کا
شریک مانتے ہیں۔ نہ کفر کرتے ہیں نہ خدا کا کبھی انکار
کرتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ سب
سے زیادہ نیک رحم دل، مہربان، مخلوق کے خیرخواہ۔
خدا کے حکم پر راضی رہنے والے، مصیبتوں پر صبر
کرنے والے۔

پر نہیں پہنچا سکتا۔

سوال: کچھ نبیوں کے نام بتاؤ۔

جواب: آدم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام۔
یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام۔ امیر علیہ السلام۔
یوسف علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سوال: کیا نبی یہ ہی ہیں یا اور بھی ہیں اور وہ کتنے ہیں؟

جواب: ان کے سوا اور بھی نبی ہوئے۔ مگر ان سب کی تعداد
اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں۔ بے شک ایمان
لانا سب پر واجب اور فرض ہے۔

سوال: سب سے پہلے کون ہیں اور سب سے آخری کون؟

جواب: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے
آخر ہمارے نبی اور رسول، جن کا نام نامی ہے احمد اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان ہوں آپ پر ہمارے ماں
باپ اور ہماری جانیں۔

سوال: سب سے افضل اور سب سے بڑھے ہوئے رسول
کون ہیں؟

جواب: ہمارے سردار اور آقا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رات دن خدا کی یہ تعداد مہر بانیاں ہوں آپ پر۔

سوال: ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب
کیا ہے؟

جواب: یہ یقین کر لینا کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔
ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ آپ کے تمام حکم صحیح ہیں
آپ کی ساری تعلیم سچ اور درست ہے ہماری عقل اُس
کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔

سوال: کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا؟

جواب: ہرگز نہیں۔

سوال: کیوں؟

جواب: اس لئے کہ مکمل دین اور مکمل کتاب کے محفوظ ہوتے ہوئے
نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔

چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے ثبوت کا فاتحہ
کر دیا، اسی لئے آپ کا خطاب خاتم النبیین ہے اور آپ کا
لایا ہوا پیغام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے۔

سوال: اچھا! تبلیغ و اصلاح کے لئے تو کسی نبی کو آنا چاہیئے۔

جواب: اس کے لئے علماء ربانی کافی ہیں۔ یعنی اللہ والے باعمل مولوی۔ اور جب معاذ اللہ بڑے دجال کا فتنہ ہوگا جب کہ اصلاح اور دین کی حفاظت علماء کے بس میں نہ رہے گی تو کوئی نیابی اس وقت بھی پیدا نہ ہوگا بلکہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کی قدرت سے بے باپ کے محض حضرت مریم علیہا السلام کے لطفن سے پیدا ہوئے تھے اور جو آسمان پر اٹھاتے گئے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں دنیا میں آسمان سے اتارے جائیں گے۔ دجال کو قتل کریں گے۔ خدا کے دین کو غلبہ ہوگا۔ یہودی اور عیسائی تباہ ہو جائیں گے۔

سوال: اس زمانہ میں اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟

جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ دجال ہے۔

کلمہ طیبہ کی تفسیر کا خلاصہ

اللہ اور رسول کا مطلب تم سمجھ گئے ان کے متعلق جو عقیدے رکھنے چاہئیں وہ تم نے پڑھ لئے۔ اب خلاصہ

مطلوب یہ ہے کہ صرف اللہ کی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہئیے اور وہ تمام باتیں ماننی چاہئیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لئے رسول بننا کر بھیجا کہ اللہ کے حکم بندوں کو پہنچائیں اور وہ باتیں اور عقیدے منوائیں جن کو مانے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔

سوال: اور باتیں کیا ہیں جن کا ماننا ضروری ہے جن کے مانے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔

جواب: جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سب سچے ہیں اور اللہ کے پاک بندے ہیں لیسے ہی یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ ان نبیوں کو اپنے اپنے زمانہ میں جو کتنا بیش خدا کی طرف سے دی گئیں وہ برق ہیں۔ اسی طرح فرشتوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، قیامت پر اور قیامت کے ادن حساب کتاب پر، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور ان تمام احکام کا ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو قرآن شریف میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہمارے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم دی ہے۔

خدا کی کتابیں

سوال: جو کتابیں خدا کی طرف سے نبیوں کو دی گئی ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں۔

جواب: یہ چار کتابیں مشہور ہیں۔

زبور: حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔

بُرَات: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔

اَحْمَل: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔

قرآن: ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

سوال: کیا یہ ہی چار کتابیں خدا کی طرف سے اتری ہیں یا اور بھی؟

جواب: بڑی کتابیں خدا کی طرف سے یہ ہی اتری ہیں۔ ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں خدا کی طرف سے اور بھی اُتریں جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ مگر ان کا نام و نشان بھی اب نہیں رہا۔

سوال: جو کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں وہ اسی طرح ہیں یا ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں۔

جواب: قرآن پاک کے سوا اور سب میں تبدیلیاں کر دیں۔ اصل

کتابوں کا پتہ بھی نہ رہا۔ ہر کتاب کا ترجمہ در ترجمہ رہ گیا۔
اس میں بھی کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہے۔

سوال: قرآن شریف کو اور کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟
جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مثلاً

۱۔ قرآن شریف جس طرح نازل ہوا تھا وہ بعینہ اسی طرح آج تک محفوظ ہے۔ اس میں کہیں ایک شو شہ اور ایک نقطہ کا بھی فرق نہیں آیا۔

۲۔ ہر زمانے میں لاکھوں انسان اس کے حافظ رہے ہیں۔ اس طرح ہر زمانہ ہر دور اور ہر وقت لاکھوں انسانوں کے سینوں میں نہ صرف قرآن شریف بلکہ اس کے لمحے اور تلاوت کرنے کے طریقے بھی محفوظ رہے ہیں۔ لاکھوں قاری ہر زمانہ میں رہے ہیں جو ہر لفظ اور ہر حرفاً کی آواز اور اس کی نوک پاک درست کرتے رہے ہیں۔

۳۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی معجزہ ہے۔ یعنی اس جیسی پیاری، بامعنی، فصیح اور بلیغ سورت نہ آج تک کوئی بناسکا ہے نہ قیامت تک کوئی بناسکے گا۔

سوال: اُن کی کتنی کتنی ہے؟
جواب: بہت زیادہ۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ سہیں نہیں معلوم۔

تقدير

سوال: تقدیر کے کہتے ہیں؟
جواب: ہر ہیات اور ہر اچھی اور بُری چیز کے لئے خدا نے تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا نے تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ کے اس علم اور اندازہ کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بُری بات خدا نے تعالیٰ کے اندازہ سے باہر نہیں۔

صحابہ کرام کے متعلق ضروری عقیدہ

صاحب کے معنی ساتھی۔ بہت سے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اصحاب اور صحابہ بھی بولتے ہیں۔
کریم کے معنی بزرگ۔ شریف۔ بہت سے بزرگوں کے لئے کرام کا لفظ آتا ہے۔ صحابی وہ مسلمان جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صحبت میسر آئی ہو۔

ہر اچھی باتوں کی تعلیم میں وہ رب سے اعلیٰ اور سب سے کامل و مکمل ہے۔

فرشته

سوال: فرشته کیا ہیں؟
جواب: فرشته خدا کی پیدا کی ہوئی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ کھلتے ہیں نہ پیٹتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہی ان کی غذا ہے۔ نور سے پیدا ہوتے۔ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ سہیں نظر نہیں آتے لیے خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کر سکتے۔ جن کاموں پر خدا نے مقرر فرمادیا اُنہی پر لمحہ رہتے ہیں۔

سوال: ان کے کام کیا کیا ہیں جن میں وہ لگے رہتے ہیں۔
جواب: مثلاً:-

- ۱۔ خدا کے حکموں کا بندوں تک پہنچانا۔
- ۲۔ دنیا کے جن کاموں پر اللہ نے مقرر فرمادیا ہے، ان کو انجام دینا۔
- ۳۔ خدا کی یاد کرنا۔

لے کیوں کہ ہماری نظر ماری اور کثیف چیزوں کے دیکھنے کی عادی ہے۔

عورت ہو تو اس کو صحابیہ کہتے ہیں۔

ایسے صاحب ایمان کو بھی صحابی مانا جاتا ہے جس کو صرف ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیدار نصیب ہو گیا ہو۔ وہ بڑا بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو۔

جن علماء نے چھان بین کر کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے حالات لکھے ہیں انہوں نے صاف طور پر تسلیم کیا ہے کہ جس خوش نصیب کو ایمان کی دولت میسر آ جاتی تھی وہ ایک ہی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شیدائی اور ایسا فدائی بن جاتا تھا کہ پھر آل والاد اور مال د دولت تو کیا اپنی جان کی بھی اس کو پرواہبیں رہتی تھیں۔ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں پر اپنی جان قربان کر دینے کو سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی کامیابی سمجھتا تھا۔

ایمان کی فضیلت کا مدار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت پڑھے۔ عشق و محبت کی یہ دولت جس کے دامن میں زیادہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو ذوق و شوق سے انجام دیتا ہے۔ جو محبوب

کی ہر ادا کا عاشق اور ہر سنت کا پابند ہے۔ وہ امت میں سب سے افضل ہے۔

قرآن پاک کی آیتوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ عشقِ مولیٰ اور حبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ صحابہ کرام کو حاصل تھی اہذا ماننا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام ہی پوری امت میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔

صحابہ کرام کی خصوصیات | قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ

۱۔ صحابہ کرام کی فطرت اور ان کی طبیعتیں انیماں علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہتر تھیں۔

۲۔ ان کی فطرت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لئے سب سے زیادہ موزوں تھیں۔

۳۔ ان کے دل ایمان سے آراستہ تھے۔

۴۔ ان کو روحانی سکون اور ایمانی تازگی حاصل تھی۔

- ۵۔ اُن کے آپس میں اتفاق تھا۔ اُن کے دل جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے۔
- ۶۔ وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مددگار تھے۔
- ۷۔ وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے عاشق تھے۔
- ۸۔ وہ سب "راشد" تھے یعنی اُن کا مسلک صحیح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے مطابق تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ وہ سب "عادل" تھے۔
- ۹۔ وہ تمام اُمّت میں سب سے بہتر تھے۔
- ۱۰۔ وہ سچائی، نیکی، خلائقِ ستی، تقویٰ، طہارت اور اخلاق حمیدہ کا ایسا ہی نمونہ تھے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے کہ صحابہ کرام اس نمونہ سے سبق حاصل کریں اور صحابہ کرام نمونہ ہیں کہ پوری انسانیت اُن سے سبق حاصل کرے۔
- ۱۱۔ قرآن پاک کی انہیں شہادتوں کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے ساتھی آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ تم جس کی راہ اختیار کرلو گے،

- نجات کا راستہ پالو گے۔
- مراتب** جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پوری امت میں سب سے افضل تھے، ایسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے آپس میں کچھ درجے تھے۔ مثلاً۔
- صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار کا مرتبہ باقی سب صحابہ سے افضل ہے۔
- مہاجرین اور انصار میں اہل حُدیبیہ جن کو بیعت رضوان والے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مرتبہ سب سے بڑھا ہوا تھا۔
- اہل حُدیبیہ میں اُن کا مرتبہ سب سے زیادہ تھا جو غزوہ بدرب میں شریک تھے۔
- اہل بدرب میں اُن دس کا مرتبہ سب سے افضل تھا، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ جو "عشرہ مبشرہ" کہلاتے ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان
عنی، حضرت علی مرضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت
سعد بن وقار، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن
حوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، رضی اللہ عنہم۔

ان دس میں وہ چار افضل تھے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہکے بعد دیگرے خلیفہ
اور جانشین بنائے گئے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ
حضرت علی مرضی کرم اللہ وجہہ۔

ان چار میں پہلے دو کا درجہ افضل تھا جن کو "شیخین"
بھی کہا جاتا ہے۔

پھر ان دو میں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
کا درجہ افضل تھا جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
پوری امت میں سب سے افضل مانا جاتا ہے۔

ان خلفاء کرام کی فضیلت
ان کی فضیلت کیسی تھی خلافت کی وجہ سے نہیں
ہوتی۔ یہ خلیفہ نہ ہوتے تب بھی یہ چاروں ساری امت میں

افضل تھے کیونکہ ان کی فضیلت قرآن شریف کی آیات اور
احادیث کی بنابر ہے جو خلافت سے بہت پہلے ثابت
ہو چکی تھی۔

صحابہ کرام پر اعتراض کسی صحابی پر کوئی
درست نہیں ہے جس سے اُن کی شان میں فرق آتا ہو۔
یا بے ادبی ہوتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک مشہور ارشاد کا ترجمہ یہ ہے اس کو خوب سمجھ لو
اور پادر کھو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میرے ساتھیوں کے بارے میں خدا سے ڈرو،
میرے ساتھیوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو
اعتراضات کا نشانہ نہ بنالیں۔

صحابہ سے محبت اسی ارشاد میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔
جو میرے ساتھیوں سے محبت کرتا ہے تو اس کی
حقیقت یہ ہے کہ اس کو دراصل مجھ سے محبت ہے اور

جب مجھ سے محبت ہے تو اس کو میرے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی محبت ہے اور جو شخص میرے ساتھیوں سے (معاذ اللہ) بغض رکھتا ہے تو درحقیقت اس کو مجھ سے بغض ہے اور جب مجھ سے بغض ہے تو وہ میرے ساتھیوں سے بھی بغض رکھتا ہے۔ (معاذ اللہ)

سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ | حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں لہذا ان کی شان میں بھی ایسی بات درست نہیں ہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو۔

اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو بھگڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا ان کے صاحبزادوں سے ہوا، وہ آپس کے بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایمان داری سے ان کی رالیوں میں اختلاف اور نکتہ نظر میں فرق تھا۔

البتہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس اختلاف میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے درست تھی۔ اور

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سوچنے کے ڈھنگ (اجتہاد) میں غلطی تھی۔

آپس کے جھگڑے | ان دونوں بزرگوں کے علاوہ جو اور اختلاف صحابہ کرام میں ہوتے وہ بھی نظریہ اور سوچنے کے ڈھنگ میں کسی قدر فرق کی وجہ سے تھے یعنی اجتہاد میں فرق تھا اور کچھ بھگڑے غلط فہمی کی بنابر ہوتے ایسے معاملوں میں یہ ہوا کہ جیسے ہی غلط فہمی دوسرے ہو گئی، بھگڑا ختم ہو گیا۔

عقیدہ کامداس

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان جن بھگڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تاریخی روایتیں ہیں ان میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی بنابر تاریخی روایتوں پر عقیدہ کا مدار نہیں ہوتا۔ عقیدہ کا مدار پختہ اور بچی بات پر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پختہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور آخر پختہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ارشادات۔

پس صحابہ کرام کی جو فضیلیتیں قرآن پاک اور حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں انہیں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں تاریخی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

فرائض اور احکام

سوال: اسلام کے کچھ فرائض اور احکام بیان کرو۔
جواب: سب سے پہلا فرض نماز۔

پانچوں وقت جماعت سے ادا کرو۔

دوسرा فرض رمضان شریف کے روزے۔

تیسرا فرض زکوٰۃ۔ یعنی اگر کم سے کم سارے ہے باون تو لو چاندی یا سارٹھے سات تو لو سونا تمہارے پاس سال بھر رہ جائے تو اس کا چالیسوائی حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دینا۔

چوتھا فرض مقدور ہو تو حج بیت اللہ۔

پانچوں فرض وقت پر جہاد۔

ضروری باتیں

تم خود عمل کرو۔ دوسروں سے عمل کرو۔ اچھی باتیں پھیلاؤ۔ خود علم حاصل کرو اور جو کچھ تم جانتے ہو دوسروں کو بتاؤ۔ اپنی قوم اور اپنے ملک کو عیسیوں کے قبضہ سے آزاد رکھو۔ سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کاملے ہوں یا گورے۔ غریب ہوں یا امیر۔

سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ماں باپ کی فرمان برداری، جنت کا صدر دروازہ ہے۔ ان کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس کا بُرا انجام دُنیا میں انسان کے آگے آئے گا۔ اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھلگتی پڑے گی۔ جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، خدا اس سے اچھا سلوک کرے گا، بد سلوک سے خدا بھی بُرا سلوک کرے گا۔ اگر رشتہ دار بد سلوکی کرے تو قوم اچھا سلوک کرو۔ پڑوسیوں پر شفقت کرو۔ ان کے ساتھ

در گند سے کام لو۔ اُن کی جو باتیں خلاف مزاج ہوں، ان کو برداشت کرو۔ سمجھانا ہو تو نرمی سے سمجھاؤ۔ سب سے اچھا وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے۔ عربیوں، بے کسوں، یتیموں سے پوری ہمدردی کرو۔ دشمنوں سے ایسا سلوک کرو کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں۔ غیر مسلموں سے لیے اخلاق برتو کہ وہ گرویدہ اسلام ہو جائیں۔ تمام جانداروں پر رحم کرو۔ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ سب سے اچھا وہ ہے جو خلق خدا کے حق میں سب سے اچھا ہو۔

سچائی نجات ہے۔ جھوٹ ہلاکت ہے۔ گالی گلوچ بدکاری ہے۔ شراب ناپاک ہے۔ جو نجاست ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ زنا کی سزا سنگساری ہے۔ تصویر اور مورثی دونوں برابر ہیں۔ جس مکان میں ہوں گے رحمت کے فرشتے نہ آئیں گے۔ گانا بجانا شیطانی چیزیں ہیں۔

لوگوں کا مذاق نہ بناؤ۔ کسی کو حقیقت نہ جانو۔ پہٹ پیچھے بُرانی نہ کرو، نہ اس کی ایسی نقل اتنا روکر اس کے سامنے اگر اس طرح نقل اتنا رو تو اس کو ناگوار ہو۔ اس کا نام غیبت ہے۔ غیبت ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جھوٹی گواہی شرک کی برابر کا گناہ ہے۔

بعض۔ کینہ۔ کپٹ۔ نیک کاموں کے لئے اسے ہیں جیسے سوکھی گھاس کے لئے دیا سلائی۔ خیانت آتش دوزخ کا داعن ہے۔

سُودخوار کو خدا کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے تو مُشرک بھی جنت میں جا سکتا ہے۔

محبت، رحم، کرم، انصاف، بہادری، خودداری، غیرت، سادگی، حیا، شرم، بلند ہمتی، ایمان کے اصلی جوہر ہیں۔

دست کاری انبیاء کی سنت ہے۔

سچا امانت دار تاجر جنت میں انبیاء اور شہداہ
کے ساتھ ہوگا۔
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طالب علم
اگر مر جائے تو شہید ہے۔

(ما خوذ از آیات و احادیث)

وَأَخْرُجْ دُعْوَانَا أَنِّي الْمُحَمَّدُ إِلَهٌ مِّنْتَرَىٰ الْعَالَمَيْنَ ۚ